

شہید

شانے

حسن و حسین

سیرت حسن و حسین، مقام حسن و حسین، واقعہ کربلا، شہدائے کربلا، قاتلین حسین،
حسن و حسین اور اہل حدیث، تعارف اہل بیت سمیت کئی اہم نکات پر مشتمل علمی و تحقیقی کاوش

تالیف

أبو الحسن عبد المنان راسخ

راسخ البیڑی

بانی ماہنامہ حکیم عبدالرحمن راسخ

۹۰

شان
حسن و حسین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مفید اضافہ شدہ جدید ایڈیشن

شانِ حسن و حسین

سیرتِ حسن و حسین، مقامِ حسن و حسین، واقعہ کربلا، شہدائے کربلا، قاتلینِ حسین،
حسن و حسین اور اہل حدیث، تعارف اہل بیت سمیت کئی اہم نکات پر مشتمل علمی و تحقیقی کاوش

تالیف

العبد الفقیر الی اللہ الغنی

عبد المناجیح السیخ

خادم السنۃ النبویۃ الشریفۃ

مركز محمد بن عبد الوہاب

در اسلام آباد

رائسہ البیڑنی

بانی ادارہ محمد بن عبد الوہاب السیخ

بیت اللہ

اس کے کتاب

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اشاعت..... جنوری 2008ء

نام کتاب

شہزادانِ حسین و حسین



عبدالمنان راسخ

راسخ اکیڈمی

غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور
نوعا سم ٹاؤن، نزد واپڈا دفتر، فیصل آباد

فون: 0300-6686931

کھلتی پیتیاں

- 9 ● ایک سید کے قلم سے
- 14 ● گزارشاتِ راح
- 20 ● انتساب
- 21 مختصر تعارف
- 22 سیدنا حضرت حسنؑ
- " " ● نواسے کا نام نانا نے رکھا
- 24 ● عقیدہ کے ایام میں عقیدت کے انداز
- 27 ● سیدنا حسنؑ ہم شکل پیغمبر ﷺ تھے۔
- 31 ● سیدنا حضرت حسنؑ محبوبِ رسول ہی نہیں محبوبِ خدا بھی ہیں
- " " ● اندازِ محبت کی ایک جھلک..... ننھا کدھر ہے.....؟
- 35 ● رخسارِ حسنؑ پر سرکارِ ﷺ کے لب
- 37 ● لعابِ حسنؑ شانہ نبوی ﷺ پر
- " " ● سینہ نبوی ﷺ پہ چڑھ کر.....
- 38 ● سرکارِ ﷺ نے فرمایا: حاضرین نہ آنے والوں کو بتلا دیں۔
- 39 ● ناطقِ وحی کی پیش گوئی نصف النہار کی طرح سچی
- 42 ● اے حسنؑ تمہاری رائے کیا ہے؟

- 43 ● رسالت کے سائے تلے
- 46 ● حضرت حسنؑ کا خوفِ خدا
- 47 ● فرزندِ انِ حضرتِ حسنؑ
- " " ● جنازہ و وفات
- 48 ● حضرت حسنؑ کا مقام اہل حدیث کی نظر میں
- 50 ● مختصر تعارف
- 51 ● سیدنا حضرت حسینؑ
- " " ● نامِ حسینؑ بھی انتخابِ پیغمبر ہے!
- " " ● عقیدہ حضرت حسینؑ
- " " ● نانا سے مشابہت
- 53 ● محبتِ حسین سے اللہ بھی محبت فرمائے
- 55 ● دنیا میں جنت کا مہمان دیکھ لو!
- 56 ● کاندھلوی صاحب کی خیانت
- 58 ● شہادتِ حسینؑ کی پیش گوئی سچی ہی تھی
- 62 ● حسینؑ کے قاتلین کے متعلق ہمارے اسلاف کا موقف
- 64 ● حضرت ام سلمہؓ کی بددعا!
- 66 ● حسینؑ کے گستاخ کا انجام!
- 67 ● میدانِ کربلا میں عظیم کردار
- 73 ● سانحہ کربلا اور سچے مسلمان کا کردار
- 75 ● حضرت حسینؑ کے متعلق اہل حدیث کا موقف

- 76 " " ● فاروق اعظم حضرت حسینؑ سے حضرت علیؑ جیسا سلوک کرتے
- 76 " " ● حضرت عمرو بن عاصؓ نے دیکھا تو کہا
- " " ● حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے دیکھا تو کہا
- " " ● حضرت عبداللہ بن عمروؓ بھی دیکھ کر تڑپ اٹھے
- 78 ● آپؑ عمل و کردار کے عظیم پیکر تھے!
- 80 ● آغوش رسالت میں سات سال
- 82 ● فرزندِ ان حضرت حسینؑ
- " " ● مقامِ شہادت
- 84 سادتنا حسینؑ رضی اللہ عنہما
- " " ● نام حسینؑ، انتخاب سیدِ اشقین
- " " ● شہزادوں کی ولادت
- 85 ● عقیقہ حسینؑ
- 86 ● مسئلہ عقیقہ کی وضاحت
- 87 ● یہ میرے اہل بیت ہیں
- 90 ● حسین کریمینؑ پشتِ ساریؑ آپؑ مبارک پر
- 91 ● شہزادے کبھی گرتے کبھی اٹھتے
- 93 ● ایک آگے اور ایک پیچھے
- 95 ● اس چادر کی اوڑھ میں کیا ہے؟
- 96 ● حسینؑ تو دنیا میں میرے پھول ہیں
- 99 ● روتے دیکھا تو آپؑ بے قرار ہو گئے

- 100 ❁ فرطِ عقیدت و محبت کا اظہار
- 102 ❁ حسینؑ کو اللہ کی پناہ میں دیتے
- " " ❁ حسینؑ اور ان سے محبت رکھنے والے ایک مقام پر!
- 104 ❁ جنتی جوانوں کے سردارؑ
- 106 ❁ بوڑھوں کے سردار شیخین کریمینؑ
- 107 ❁ اب خوش ہوں
- 108 ❁ حضرت علیؑ کی وصیت شہزادوں کے نام
- 109 ❁ بابائے حسینؑ کی حکمت بھری باتیں
- 112 ❁ قارئین و واعظین کی خدمت میں
- 113 ❁ جن کتابوں کے چمن سے پھول پھٹے



یاد رہے!

مصنف کی دیگر علمی و تحقیقی اور تربیتی و اصلاحی کتب کا مطالعہ کرنا ہرگز نہ بھولئے!

ایک سید کے قلم سے

افراط و تفریط کی بجائے راہِ اعتدال کی دعوت تمام شرائعِ سماویہ کی بنیاد رہی ہے۔ چونکہ انسانیت کی فوز و فلاح غلو سے احتراز اور میانہ روی میں مضمر ہے۔ بنا بریں انبیاء کرام علیہم السلام جیسی پاکباز ہستیوں نے اپنی امتوں کو اسی کی تلقین فرمائی مگر انسان اکثر و بیشتر اسی جانب راغب ہوتا ہے جدھر سے شریعت اسے منع کرتی ہے جیسا کہ ارشادِ رب العالمین ہے:

وَمَا أَمْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

عقائد و اخلاق اور عبادات و معاملات کے ہر پہلو میں اور ہر سطح پر انسان کا نفس امارہ اس کو منہیات اور ممنوعات کے ارتکاب پر ہی اکساتا ہے۔ نفس امارہ کی خواہشات کی تکمیل نہایت مذموم حرکت اور گھٹیا عمل ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
مگر کامیاب و کامران وہ فرد ہے جس نے اتباعِ نفس کی بجائے اپنے خالق و مالک کو مطاع جانتے ہوئے اس کی ہدایات و تعلیمات کو اپنایا اور اس کے احکامات و اوامر کے سامنے سر جھکایا۔

اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا؟

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

انسوس صدانسوس!

کہ یہود و نصاریٰ نے اہل کتاب ہونے کے باوجود منصبِ نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے اور وحی و شریعت کی حقانیت کا اعتراف کرنے کے باوجود راہِ اعتدال کو چھوڑ کر

افراط و تفریط کے راستے پر چلنا پسند کیا۔ نصاریٰ اپنے اکابرین اور بزرگانِ دین کی محبت و عقیدت اور تعظیم و توقیر میں اس قدر آگے بڑھے کہ اعتدال کی حدود سے نکل کر غلو کی دلدل میں پھنس گئے بالآخر ان کا انجام یہ ہوا کہ

اتَّخَذُوا أَحِبَّارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ الآية

جبکہ ان کے پیشرو یہود نے گستاخی و بے ادبی کو اپنا وتیرہ بنا لیا اپنے ہی محسنوں کے گریباں پر ہاتھ ڈالنا ان کا محبوب مشغلہ ٹھہرا۔ حتیٰ کہ وہ اس نوبت کو پہنچے کہ

﴿يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ الآية﴾

چنانچہ ان کے متعلق ارشادِ الہی ہوا:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ الخ

امت محمدیہ علیٰ صاحبہا افضل الصلوة والسلام کو پاکیزہ دعاء سکھائی گئی جو پانچوں نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ آمین

الہی! ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب ہوا۔ (یہود) اور ان کی جو گمراہ ہوئے (نصاریٰ)

آہ صد آہ! آج اس قدر واضح اور پاکیزہ دعا کرنے والی بہترین امت بھی راہِ اعتدال کے مالک بننے کی بجائے افراط و تفریط کی گڈنڈیوں پر چل نکلی۔ شاہراہِ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جاہلانہ تعصب و حمیت کے سنگلاخِ راستے کو اپنانے میں لذت محسوس کرنے لگی اور یہود و نصاریٰ کی روش کو اپنا لیا۔ جس کے نتیجے میں خانودہ نبوت کو ایک گروہ نے محبت و عقیدت کے نام پر درجہ معصومیت پر فائز کر دیا تو اس کے رد عمل میں دوسرے گروہ نے ان کی رفعت و عظمت اور بزرگی و برتری گھٹانے میں ”تحقیق زور“ لگاتے لگاتے ”زور“ سے بھی

گریز نہیں کیا۔ ان افراد پر حیرت ہوتی ہے جو فقہی مسائل میں خود کتاب و سنت کی اتباع اور اطاعت کرنے پر زور دعوت دیتے ہیں۔ جو فرد ان کے نکتہ نظر کے مطابق معمولی سا بھی منحرف دکھائی دے وہ قابل مواخذہ و ملامت ہوتا ہے مگر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کی عظمت و جلالت اور شرف و عزت کے بیان پر مبنی واضح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ﷺ ﴿علیٰ صاحبہا افضل الصلاة والسلام﴾ پر ان کی توجہ مبذول نہیں ہوتی؟ حدیث نبوی ﷺ ﴿قولوا آمین﴾ آمین کہو پر عمل کرنا ایک مسلمان ”اہل حدیث یا اہل سنت“ کے لیے نہایت ضروری ہے مگر ﴿اجموا اهل بیئتی﴾ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ پر عمل کرنا ”شاید لازمی“ نہیں ہے۔ ﴿کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدہ﴾ رسول اللہ ﷺ رفع الیدین فرماتے تھے یعنی رفع الیدین آپ ﷺ کی سنت ہے۔ یہ عمل تو یاد رہتا ہے یاد رہنا چاہیے۔

مگر ”اہل حدیث“ اور ”اہل سنت“ کو ساتھ وہ عمل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ ﷺ نے دورانِ خطبہ سیدنا حسن و حسین (رضی اللہ عنہما) کو صحن مسجد نبوی ﷺ میں گرتے ہوئے دیکھا تو خطبہ منقطع کرتے ہوئے منبر سے اتر کر بے تابی کے عالم میں خود صحن میں پہنچ کر نواسوں کو اٹھایا اور منبر نبوی ﷺ پر اپنے ساتھ لا کر بٹھایا اور دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہو کر سلسلہ کلام کو جاری رکھا۔

یہ امر نہایت باعث تشویش ہے کہ گذشتہ چند برسوں سے ”خارجی فتنہ“ کے جراثیم پھیل رہے ہیں اور بعض عاقبت ناندیش نام نہاد تحقیق کے عنوان سے رسول اکرم ﷺ کے اہل بیت اطہار کو تختہ مشق بنانے کی سعی نامشکورہ میں مصروف ہیں۔ جن کی محبت و عقیدت اللہ و رسول اللہ ﷺ کی محبت کا تقاضا اور مومن کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے اور جس گھرانے کی عزیمت اور استقامت، اخلاص و للہیت اور زہد و ورع، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت اور جدوجہد سے ہی ہم تک دین پہنچا۔ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف کا عظیم ورثہ ملا۔ اس خاندان کا استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے۔ ان کے آداب کے تقاضے بجلائے جائیں۔ ان کا تذکرہ نہایت ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ ان کے کردار و عمل

کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے۔ ان کی بابت گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرنا اور دشنام طراز قلم چلانا موجب ذلت و رسوائی، حد درجہ جہالت و ضلالت اور نہایت بددیانتی اور بے دینی ہے۔

با ادب زندگی صدیقے شود

بے ادب صدیق زندگی شود

اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر تا امروز مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ محدثین عظام نے کتب حدیث میں اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل بیان کرنے کے لیے مستقل ابواب ترتیب دیئے۔ اس عنوان کے تحت بیسیوں مستقل کتابیں تالیف فرمائیں۔ ان کے اظہار عقیدت کے لیے پاک و ہند کے اکابر علماء اہلحدیث نے اپنے ناموں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے نواسوں کے اسماء گرامی کو مرکب کیا۔ ذرا غور فرمائیں!

نواب صدیق الحسن القنوجی ☆ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی ☆ مولانا محمد حسین بٹالوی۔ اسی طرح داماد رسول مقبول (ﷺ) ☆ شوہر فاطمہ بتول (ؑ) سیدنا علی المرتضیٰؑ کا نام بھی ان کے ہاں نہایت محبوب، مقبول اور محترم تھا۔ جس کا انداز بھی ان کے ناموں سے ہوتا ہے۔

مولانا یحییٰ علی / مولانا ولایت علی ☆ مولانا عنایت علی ☆ مولانا محمد علی لکھوی۔ علی

ہذا القیاس!

میرے لیے یہ امر نہایت فرح و انبساط کا باعث ہے کہ ایک نوجوان عالم دین مولانا حافظ عبدالمنان راسخؒ نے سیدنا حسن و حسینؑ کے فضائل و مناقب سے متعلقہ احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ اصول تخریج کو ملحوظ رکھا۔ روایات کی صحت کا اہتمام کیا اور نہایت دلآویز عنوانات ترتیب دیئے۔ احادیث شریفہ کا اردو ترجمہ نہایت سلیس اور عمدہ اسلوب میں کیا اور تشریحی نکات اس انداز میں مرتب کئے ہیں کہ جن کے مطالعہ کے بعد ایک صاحب ذوق یقیناً جہاں ایمان کی چاشنی محسوس کرے گا وہاں اس کے سامنے ”خارجی ذہنیت“ کے پھیلانے ہوئے متعدد شکوک و شبہات کا پردہ بھی (ان شاء اللہ العزیز) چاک

ہوگا۔

مرتب موصوف کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نعمتوں اور سعادتوں سے مزید بہرہ ور فرمائے۔ ان کی اس علمی کاوش کو بار آور فرمائے۔ بندوں کی ہدایت کا سامان بنائے اور ان کے لیے توشہ آخرت بنائے اور ان کے والد گرامی برادر حضرت مولانا حکیم عبدالرحمن راسخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین جو کہ بہترین مبلغ، موثر خطیب، دین حق کے بلوٹ داعی، مہمان نواز، ملنسار، خوش گفتار اور بااخلاق اور باعمل عالم دین تھے۔

کئی کئی گھنٹے تقریر کرتے تھے۔ جب خوش الحانی کے ساتھ تلاوت فرماتے تو سامعین پر وجد طاری ہو جاتا تھا اور دینی اشعار مترنم انداز میں پڑھتے تو لوگ عیش عرش کر اٹھتے۔ ابھی جوانی کی دہلیز سے نکل کر پختہ عمر کی حدود میں داخل ہوئے تھے کہ مالک حقیقی کا بلاوا آ گیا اور وہ لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

مگر عزیزم صاحبہ! حافظہ عبدالمنان راسخؒ کی شکل صورت میں ان کی باقیات صالحات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بہن بھائیوں سمیت ہر شر سے محفوظ رکھے اور تازندگی دین ضیف کا خادم بنائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین

کاتبہ

سید ضیاء اللہ شاہ بخاری

جامعۃ البدر، ساہیوال

گزارشاتِ راسخ

الحمدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ۔ اَمَّا بَعْدُ
ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ الحمد للہ اہل حدیث ہی اہل بیت کے سچے وارث
ہیں اور اُن کے افکار و عقائد کے حامل ہیں، اور دین کے پیانہ میں رہتے ہوئے اہل بیت
سے والہانہ محبت رکھتے ہیں اور بالخصوص حضرت حسین کریمینؑ کو حد درجہ عزت و قدر کی
نگاہ سے دیکھتے ہیں، کسی طرح بھی اُن کے متعلق تحقیرانہ لہجہ یا گستاخانہ رویہ یا مبالغانہ انداز
پسند نہیں کرتے لیکن نہ جانے اس سب کچھ کے باوجود بعض حضرات یہ سمجھتے اور تصور پیش
کرتے ہیں کہ اہل حدیث، اہل بیت اور حسین کریمین کی دل و جان سے عزت و تکریم اور
قدر نہیں کرتے بلکہ اُن کے متعلق منفی سوچ رکھتے ہیں۔ جبکہ یہ بات سراسر حقیقت کے خلاف
ہے اہل حدیث الحمد للہ تمام اہل بیت کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں اور اہل بیت کی
محبت اور خاندانِ پیغمبر ﷺ کی عقیدت کو فرض بلکہ جزو ایمان سمجھتے ہیں اور بالخصوص
سادتاً حضرت حسین کریمینؑ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم جب ان شہر ادوں کا نام
لیتے اور ذکر کرتے ہیں تو جہاں ہمارے دلوں کو سکون و قرار ملتا ہے وہاں ایمان میں اضافہ بھی
ہوتا ہے۔

خليفة اول سيدنا ابو بكر صديق ﷺ سے لے کر آج تک ہر الحمدیث نے خانوادہ
نبوت کو ہمیشہ شرف کی نگاہ سے دیکھا ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف
نے اپنی کتابوں میں جہاں ضمناً اہل بیت اور حسین کریمینؑ کی عظمت سے اپنی کتب کے
اوراق روشن کئے ہیں وہاں عظمتِ اہل بیت اور شانِ حسین کریمین کے مقدس عنوانات پر
مستقل کتب مرتب فرمائی ہیں اور یقیناً یہ اہل بیت اور خاندانِ محمد ﷺ سے خصوصی لگاؤ اور
محبت کا نتیجہ ہے۔ الحمد للہ ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل
بیت اور خاندانِ محمد ﷺ کا عقیدہ تھا۔

اس برحق اور سچے ثبوت کے باوجود یہ خیال کرنا کہ اہل حدیث، اہل بیت، خاندانِ محمد ﷺ یا حسین کریمینؑ سے عقیدت نہیں رکھتے یہ بلاشبہ الزام اور تہمت ہے۔

مسکِ اہلحدیث راہِ اعتدال کا نام ہے:

مسکِ اہلحدیث دینِ اسلام کا دوسرا نام ہے۔ ہم الحمد للہ کتاب و سنت کو اپنے لئے باعثِ ہدایت اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اسی لئے ہم اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اُن کو حاجت روائ، مشکل کشا اور معصوم مانتے ہیں اور نہ ہی اُن کے ناموں کی نذر و نیاز دیتے ہیں۔ کیونکہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام بذاتِ خود ایسے عقائد و نظریات کی تردید کرتے ہوئے ہمیشہ سچی توحید کی دعوت دیتے رہے اور ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے اور اُس کے سامنے جھکتے رہے، یہی وجہ ہے کہ حسین کریمین سمیت اہل بیت میں سے کسی نے بھی کبھی یا علی مدد یا اے علی مشکل کشا، کانعرہ نہیں لگایا۔ ہم بھی الحمد للہ اہل بیت کی طرح توحید کے معاملہ میں بڑے حساس ہیں۔ عقیدت میں ڈوب کر توحید پر آنچ نہیں آنے دیتے جس طرح ہم اہل بیت کی محبت میں غلو نہیں کرتے اسی طرح اُن کی شان میں تنقیص بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم ایسے ناصبی حضرات کو گمراہ سمجھتے ہیں جو حضرت حسین کی صحابیت یا حضرت علیؑ کی خلافت پر طعن کرتے ہیں۔

محمود احمد عباسی اور فیض عالم صدیقی ناصبی تھے اہل حدیث نہیں تھے:

اہل تشیع کے رد میں محمود احمد عباسی اور فیض عالم اس قدر حد سے تجاوز کر گئے کہ اہل بیت اور حضراتِ مجددین کی تنقیص پر اتر آئے اسی لئے ان کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ اکابرِ اہلحدیث کے نزدیک محمود احمد عباسی اہلحدیث تھا اور نہ ہی اہلحدیثوں کے منہج پر تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے اُس کی تصانیف پڑھنے سے ہر قاری پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی صحیح احادیث جو منہجِ مجددین کے مطابق درجہِ صحت کے بلند مرتبہ پر فائز ہوتی ہیں اُن کو لغو، من گھڑت اور کذب قرار دیتا ہے اور اپنے مذموم نظریے کو تقویت دینے

کے لئے ہر قسم کا رطب و یابس حاطب لیل کی طرح اکٹھا کرنا اس کا ایک فن ہے جس کی قطعاً کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہوتی۔

اسی طرح حکیم فیض عالم صدیقی صاحب اگرچہ اہلحدیث کا پلیٹ فارم استعمال کرتے رہے، مگر وہ اہلحدیث کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو اہلحدیث بلکہ حضرات محدثین پر لعن طعن اور اتہام لگایا کرتے تھے، وہ ائمہ و محدثین جو اساطین اہل السنہ ہیں، ان کے علمی کارناموں کو جہالت و خباثت کہنے والا شخص قطعاً اہل الحدیث نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنی کتاب صدیقہ کائنات صفحہ نمبر 114 پر حدیث کے مدون اول، امام اہلحدیثین حضرت امام محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ کے متعلق رقمطراز ہے:

{ ابن شہاب منافقین و کذابین کے دانستہ نہ سہی نادانستہ ہی سہی مستقل ایجنٹ تھے، اکثر گمراہ کن، خبیث اور مکذوبہ روایتیں انہیں کی طرف منسوب ہیں۔ }

اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح بخاری پر اعتماد کرنے والے قاری پر بیجا برتے ہوئے صفحہ 95 پر رقمطراز ہے:

{ سامنے فوراً بخاری کی روایت آگئی، تو وہ بخاری شریف کے احترام میں اندھا دھند ٹاک ٹوئے مارتا ہوا آگے بڑھ گیا، اس کی بلا سے نبیؐ پر زبان طعن دراز ہوتی رہے۔ پرواہ نہیں مگر بخاری شریف کے احترام میں فرق نہ آئے۔ }

مزید صفحہ 236 پر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ برحق امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتا ہے:

{ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی برائے نام خلافت سے امت کو کیا ملا؟ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حصول خلافت کے خیال کو اپنے دل میں پروان چڑھانے میں مشغول تھے۔ }

حضرات محدثین کے متعلق اس قدر گھٹیا زبان بھی استعمال کرتا رہا اور یہاں تک

لکھا:

{مجمع الزوائد وغیرہ کتب کے مؤلفین یا توفیقہ کے مسلمان تھے اور یا

قطعاً جاہل تھے۔} {خلافت راشدہ صفحہ 123}

شیخ مکرم مولانا ارشاد الحق اثری دامت برکاتہم اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں جب اس کے قتل کی خبر پہنچی تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی مجلس میں تشریف فرما تھے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگے کیا وہ اہل حدیث کے منہج پر تھا میں نے کہا نہیں، چنانچہ پھر اُس کے لئے دعائے مغفرت بھی نہیں کی گئی تھی۔

اسی طرح عصر حاضر کے معروف محدث، ماہر علم الرجال حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

{فیض عالم صدیقی کا یہ صحیح مسلم پر بہتان ہے: میں کہتا ہوں جو شخص

امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نام نہاد کہتا ہو (دیکھئے سادات بنی

رقیہ ص 46) اور ثقہ امام زہری پر طعن کرتا ہو (دیکھئے سادات بنی رقیہ

ص 113) اسے کب شرم آتی ہے کہ صحیح مسلم پر تو جھوٹ نہ بولے،

ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ، مغالطہ دہی اور تاریخ کی

موضوع روایات پر اندھا دھند اعتماد ہے۔}

محبت ہی محبت صفحہ 66 پر زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ ”حکیم فیض عالم صدیقی

(ناصحی) وغیرہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، اُن سے تمام اہلحدیث

بری الذمہ ہیں۔ اہل حدیث کا ناصبیوں اور رافضیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل حدیث کا

راستہ کتاب و سنت والا راستہ ہے اور یہی اہل سنت ہیں۔

مندرجہ بالا حقائق کی موجودگی میں ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ

اہلحدیث نہیں تھے لہذا انہوں نے جیسی موٹگافیاں بھی کی ہیں اُن کا مسلک اہلحدیث کے

ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کی کتابوں پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہوئے بغیر حوالہ دیکھے

اور تحقیق کئے آگے بیان کرنا چاہیے۔

ہم نے الحمد للہ اپنے اسلاف کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے اس رسالہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ بتول، ہمین رسالت کے پھول سیدنا حضرت حسنؑ اور سیدنا حضرت حسینؑ کا ذکر خیر کیا ہے اور الحمد للہ و بتوفیقہ ان سرداروں کی شان سردار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان رسالت سے بیان اور تحریر کی گئی ہے۔ حتّٰی الوُسع تمام احادیث صحیح ذکر کی ہیں اور کوئی روایت بھی ایسی نہیں جو درجہ حسن سے کم ہو۔ اور اگر کسی حدیث کو بعض نے صحیح اور بعض نے ضعیف کہا ہے تو میں نے اس کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے تحریر کیا ہے لیکن ایسا بہت کم ہے صرف احادیث صحیحہ کا اہتمام اس لئے کیا گیا تاکہ ان دونوں شہزادوں کی قدر، ان دونوں پھولوں کی مہک اور ان پیاروں کی عظمت زبان رسالت سے پڑھ کر ہمارے دل ان کی محبت سے موجزن ہو جائیں۔ اسی طرح کئی ایک مقامات پر صحابہ کرام کی اُس عقیدت و محبت کا دل نشیں نقشہ بھی کھینچا گیا ہے جو رسول اللہ کے بعد ان شہزادوں سے رکھتے تھے تاکہ اس بیجا تاثر پھیلانے والوں کی بھی نفی کر دی جائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، نیز آئمہ محدثین اور مشاہیر اہلحدیث کے اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اہلحدیث ہر دور میں اہل بیت اور بالخصوص حسین کریمین کے مداح ہی رہے ہیں۔ کبھی بھی اُن کی عزت و عظمت پر آنچ نہیں آنے دی۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ جن احباب کی زبان سے اہلیت کے متعلق توہین آمیز کلمات نکلتے ہیں یا جن کے قلم سے ان شہزادوں کی گستاخی و بے ادبی کی بدبو آتی ہے اللہ رب العالمین ایسے نادانوں کو صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے وھو الھادی الموقّ المعیّن۔

مَنْ أَحْبَبَهُمَا فَالرَّسُولُ يُحِبُّهُ ۝ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَالرَّسُولُ يَبْغِضُهُ

آخر میں اپنے تمام اصداق و احباء کا شکر گزار ہوں جو دینی معاملات میں میرے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ بالخصوص مشائخ ادارہ علوم اثریہ فیصل آباد کا شکر گزار ہوں کہ جو بڑی خندہ پیشانی سے مکتبہ سے استفادہ کا موقع فراہم کرتے ہیں اور اسی طرح محترم ابو بکر

قدوسی اور عمر فاروق قدوسی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مفید اضافہ جات سے مزین اعلیٰ ایڈیشن شائع کرنے کا اہتمام فرمایا، اللہ ان کی حسنت کو قبول فرمائے اور اللہ رحیم و کریم میرے جدّین، والدین اور اساتذہ و رفقاء کو جزاءِ خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسبِ شخصیات میں راہِ اعتدال نصیب فرمائے۔

وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔ آمِينَ ثُمَّ آمِينَ

مکتبہ

ابوالحسن عبدالمنان راسخؒ كَانَ اللهُ لَهُ

مخارم السنة النبوية الشريفة

فیصل آباد پاکستان

4 محرم الحرام 1429 ہجری

انتساب

ہر اُس مسلم کی طرف

جس کا دل

حبِ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سرشار ہے

اور

وہ اُن کی محبت میں

راہِ اعتدال کی بلندیوں پر فائز ہے

عبدالمعنان راسخ

4 محرم الحرام 1429 ہجری

مختصر تعارف

حسن بن علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم	<u>مکمل نام:</u>
ابومحمد	<u>کنیت:</u>
مدینہ طیبہ	<u>جائے پیدائش:</u>
15 رمضان سن 3 ہجری، یکم اپریل 625 م	<u>تاریخ پیدائش:</u>
پہلے بڑے نواسے	<u>رسول اللہ ﷺ سے رشتہ:</u>
پہلے بڑے بیٹے	<u>حضرت علیؑ و فاطمہؑ سے رشتہ:</u>
کم و بیش 7، ساڑھے سات سال	<u>آپ ﷺ کی زندگی میں کتنی عمر کے تھے:</u>
تعداد معلوم نہیں کئی شادیاں کیں۔	<u>کتنی شادیاں کیں:</u>
گیارہ بچے ایک بچی	<u>اولاد:</u>
مدینہ طیبہ	<u>زیادہ عرصہ کہاں ٹھہرے:</u>
47 سال	<u>مکمل عمر:</u>
50 ہجری	<u>وفات:</u>
سعید بن العاص	<u>جنازہ کس نے پڑھایا:</u>
مقبرۃ البقیع مدینہ طیبہ	<u>کہاں دفن ہوئے:</u>

سیدنا حضرت حسنؑ

زیر نظر کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے دو ایسے روشن ستاروں کا ذکر خیر کیا گیا ہے، جو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ آنجناب رضی اللہ عنہم کے محبوب نواسے بھی ہیں، آپ رضی اللہ عنہم اُن سے والہانہ محبت فرماتے تھے۔ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ بچپن میں جس طرح حضرت حسنین کریمین آپ کی چاہتوں کے مرکز بنے اور آپ کی خصوصی شفقت و محبت اور تربیت میں پرورش پائی، یہ اعزاز چند صحابہ کو ہی حاصل ہوا جن میں حضرت حسن و حسین سرفہرست ہیں، آپ کی والہانہ محبت کے منفرد انداز اور آپ کی چاہتوں کی چند جھلکیاں ہی اس کتاب کا اصل موضوع ہیں، آغاز میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ رضی اللہ عنہم کی طرح ہمیں بھی ان شہزادوں سے دین کے مطابق والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

نواسے کا نام نانانے رکھا:

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا پہلا نام ”حرب“ تھا۔ عربی میں حرب، جنگ کو کہتے ہیں، ”وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ“ ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، کلمہ مونث ہے اور کبھی مذکر بھی مستعمل ہوتا ہے ”رَجُلٌ حَرْبٌ“ جنگجو، شجاع آدمی، اس کی جمع حروب، تصغیر حُرْبٌ آتی ہے۔ {السنجد مادہ حرب صفحہ 197}

حرب نام رکھنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع ہی سے بڑے جنگجو، بہادر اور نڈر تھے، چنانچہ اپنے پہلے بیٹے کا نام ہی حرب رکھ دیا۔

لیکن سید الکونین، امام الرسل جناب محمد رسول اللہ رضی اللہ عنہم نے تبدیل فرما کر ”حسن“ رکھ دیا۔ بِحَسْبِ كَةِ السَّيْنِ، سین کی زبر کے ساتھ ”حَسَنٌ“ خوبصورت، اچھا، صفت کا صیغہ ہے۔ {السنجد مادہ حسن ص 209}

حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ

أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ حَرْبًا، قَالَ: بَلْ هُوَ حَوْسَنٌ۔“

{مسند احمدہ 2 / 769۔ کتاب فضائل الصحابة للامام احمد 2 / 971} (اسنادہ صحیحہ) ﴿﴾
جب حسنؑ پیدا ہوا، تو میں نے اس کا نام حرب رکھا، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرے بیٹے کا دیدار کرواؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علیؑ فرماتے ہیں میں نے کہا حرب رکھا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں وہ تو حسن ہے۔
دوسری روایت میں ہے حضرت علی المرتضیٰؑ بیان فرماتے ہیں:

لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةً فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنَ سَمَّاهُ بِعَمِّهِ جَعْفَرٍ
قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ
هَذَيْنِ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا۔

{مسند احمدہ 1 / 159، مستدرک حاکم 4 / 277، السلسلة الصحيحة رقم 2709}

جب حضرت حسنؑ پیدا ہوئے اُس کا نام حمزہ رکھا اور جب حسینؑ پیدا ہوئے تو اُن کا نام بچا کے نام پر جعفر رکھا، مجھے رسول اللہ ﷺ نے بلایا اور فرمایا: مجھے یہ دونوں نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے پس آپ ﷺ نے اُن دونوں کا نام حسن و حسین رکھ دیا۔
حضرت امام البانیؒ نے مذکورہ بالا حدیث کو پہلی حدیث سے راجح اور صحیح قرار دیا ہے اور ہماری تحقیق کے مطابق بھی یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ بہر صورت دونوں نواسوں کے پیارے نام رسول اللہ ﷺ نے ہی تجویز فرمائے تھے۔
بلکہ دکتور عبدالکریم بن ابراہیم لکھتے ہیں:

﴿أَوَّلُ مَنْ سَمِيَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: السَّبْطَانِ وَكَذَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ﴾

سب سے پہلے حسن و حسینؑ رسول اللہ ﷺ کے نواسے، حضرت علیؑ کے بیٹے جو حضرت فاطمہؑ سے پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا۔ یعنی ان شہزادوں سے پہلے کسی

کا نام حسن و حسینؑ نہیں تھا۔ (معجم مایخص آل البيت النبوی ص 72)
اور مفضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

﴿حَجَبَ اللَّهُ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ عَنْ أَنْ يُسْمَىٰ بِهِمَا حَتَّىٰ
سَمَىٰ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْنَيْهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. أَمَّا
حَسَنٌ وَحَسِينٌ الْمَوْجُودَانِ فِي أَنْسَابِ طَيِّبٍ فَأَلَّوْلُ بِسُكُونِ
السُّيْنِ وَالثَّانِي بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ السُّيْنِ﴾

{التصنيف والتعريف صبه الأعشى 6/111 اسد الغابة 2/9 غصن الرسول 24}

اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھنے سے روک رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں
نواسوں کا نام رکھا اور جو نام حسن اور حسین یہ طیبی قبیلہ کے نسب میں موجود ہیں پہلا سین کے
سکون کے ساتھ اور دوسرا پرزبر اور سین پرزبر کے ساتھ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے ان تجویز کئے ہوئے ناموں پر کئی اہل علم محدثین کرام نے
اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھے۔ علم اسمائے رجال پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حسن
نام کے بے شمار ائمہ، محدث، فقیہ اور علماء و فضلاء گزرے ہیں، آج بھی ہم اگر رسول
اللہ ﷺ کے اس انتخاب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے عبد اللہ حسن یا حسن عبد اللہ، عبد اللہ
حسین یا حسین عبد اللہ نام رکھ لیں تو بہت خوب ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسرے اسماء کے ساتھ ساتھ رسول کریم ﷺ کا تجویز
فرمایا ہوا نام حسن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

عقیقہ کے ایام میں عقیدت کے انداز:

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں سیدنا حسنؑ کا نام رسول اللہ ﷺ نے خود رکھا
اور دیگر احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ صرف نام ہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کے کان میں
نغمہ توحید بلند کیا اور حضرت حسنؑ کا عقیقہ بھی کیا۔ ذیل میں ہم خصوصاً وہ روایات تحریر

کریں گے جن میں صرف اور صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ وگرنہ تفصیلی بحث (شانِ حسین) میں آئے گی۔ سیدنا حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

﴿رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ

بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَكَلَّتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ﴾

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں نماز والی اذان کہتے ہوئے دیکھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو جنم دیا۔ {مسند احمد بن حنبل (6/39) مسند ابی رافع۔ المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ 31 حدیث [2578] صحیح جامع ترمذی شریف، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مترجم جلد (2/276) محدث شہیر امام ترمذی نے اس حدیث شریف کو حسن صحیح کہا ہے؟ امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے، امام مبارک پوری رحمہ اللہ، الشیخ مفتی امین اللہ پشاور، الشیخ ایوب، الشیخ اثری سمیت کثیر مشائخ عظام کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے، نیز یاد رہے کہ اس حدیث کی سند میں عاصم بن عبید اللہ پر اگرچہ جمہور کی جرح ہے مگر امام علی رحمہ اللہ نے توثیق بھی فرمائی ہے اور امام ابن عدی فرماتے ہیں ضعف کے باوجود اس راوی کی حدیث لکھی جاتی ہے۔}

اس حدیث مبارک سے جہاں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شان ثابت ہوئی وہاں یہ صراحت بھی ہو گئی کہ نومولود بچے کے کان میں اذان کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہنی چاہیے، آج تک پوری امت مسلمہ کا تواتر سے اسی پر عمل ہے، اجماع امت بھی باعث تقویت ہے اور اسی لئے یہ حدیث اکثر محدثین و مشائخ کی رائے کے مطابق درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔

نیز معمولی ضعف کی وجہ سے حدیث کو بالکل متروک العمل سمجھنا اور من گھڑت روایت کی طرح چھوڑ دینا قطعاً درست نہیں۔ ایسے معاملے وہ جذباتی احباب کرتے ہیں جو فن اصول حدیث کے مزاج سے صحیح طرح واقف نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضد، تشدد اور اپنی تحقیق ٹھونسنے کی بجائے حضرات محدثین کرام کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

یقیناً یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ تعامل امت بھی بہت بڑی دلیل اور حجت ہے

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں (وَاعْمَلْ عَلَيْهِ) اور مسلمانوں کا عمل اسی پر ہے۔ اب بھی الحمد للہ جمہور اہل علم اور مسلمانوں کا عمل اسی پر ہے۔ یاد رہے! مسلمانوں کے متواتر عمل اور شعار کو سند کے معمولی ضعف کی بناء پر بالکل متروک قرار دینا یقیناً دین میں نیا فتنہ ڈالنے کے مترادف ہے جبکہ ایک عالم و فقیہ حکمت و دانائی کا پیکر ہوتا ہے۔

مسند احمد اور السنن الکبریٰ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ولادتِ حسن پر حکم فرمایا:

﴿إِحْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوِزْنِ شَعْرَةٍ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ﴾

اس کا سر موٹھا اور بالوں کے برابر چاندی مسکینوں پر صدقہ کر۔ (مسند احمد جلد ۶ صفحہ 90، السنن الکبریٰ امام بیہقی، کتاب الضحایا، باب ماجاء التصدق بزنة شعرة جلد 304/9، ارواء الغلیل، فصل فی العقیقة جلد 4 صفحہ 403، رقم الحدیث [1175] اور یہ حدیث بھی حسن ہے۔)

اور جامع ترمذی میں ہے کہ

﴿عَقَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ إِحْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرَةٍ فِضَّةً، قَالَ فَوَزَنَاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ، دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ﴾ (صحیح جامع ترمذی، 2/277، ارواء الغلیل جلد 4 فصل فی العقیقة)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کا سر موٹھا اور بالوں کے برابر صدقہ کرو، انہوں نے بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم وزن کے ہوئے۔ امام بیہقی نے بھی اسی مفہوم کی روایات ذکر کی ہیں جن میں بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ (مجمع الزوائد 4/60،)

{دیگر صحیح روایات میں دو مینڈھے ذبح کرنے کا ذکر ہے اور وہی حدیث (راجح ہے) اللہ رب العالمین ہمیں یہ بہت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نا حضرت

حسن رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب تھے کہ جن کا نام، جن کے کان میں اذان اور جن کا عقیدہ رسول علیہ السلام نے خود کیا۔ سَلَامُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے:

حضرت حسن رضی اللہ عنہ حد درجہ خوب رُو، خوبصورت اور حسین تھے۔ آپ کے حسن کی چمک دمک سے تاریخ کے اوراق روشن ہیں اور نور علی نور کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ شکل رسالت کی جھلک تھے جو بھی آپ رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر نور کو دیکھتا۔ تو بے ساختہ کہہ اٹھتا:

﴿لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ﴾

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہم شکل پیغمبر نہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب الحسن والحسين رضی اللہ عنہما کے تحت چند احادیث لائے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مشابہت کا ذکر ہے۔

صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ

يَقُولُ: يَا بَنِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ: وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ﴾

{فتح الباری بشرح البخاری، 8/978}

میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی شبابہت نہیں ملتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زبان صدیق سے یہ کلمات سن کر مسکرا رہے تھے۔

مندرجہ بالا حدیث صحیح سے تین باتیں واضح ہوئیں۔

1- حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہم شکل پیغمبر تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ ملتا جلتا تھا۔

2- خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق عبد اللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما کو آل بیت سے خصوصی پیار تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے خصوصی انس، شفقت اور محبت فرماتے تھے۔

اور کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب حسن و الحسین کے تحت سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا فرمان موجود ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ

﴿ اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ ﴾

نبی کریم ﷺ کی (خوشنودی) آپ کے اہل بیت کے ساتھ (محبت و خدمت کے ذریعہ) تلاش کرو۔ یا آپ ﷺ کا خیال آپ کے اہل بیت میں رکھو۔ شارح حدیث، ماہر علم رجال علامہ ابن حجر رضی اللہ عنہما اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

﴿يُخَاطَبُ بِذَلِكَ النَّاسَ وَيُوصِيهِمْ بِهِ، وَالْمُرَاقِبَةُ لِلشَّيْءِ الْمَحَافِظَةُ عَلَيْهِ يَقُولُ أَحْفَظُوا فِيهِمْ فَلَا تُؤْذُوهُمْ

وَلَا تُسْنُوا إِلَيْهِمْ﴾ (بخاری 80/8)

کہ آپ ﷺ لوگوں کو (یعنی صحابہ کرام کو) مخاطب کرتے اور وصیت فرماتے اور مراقبت بمعنی حفاظت ہے یعنی اہل بیت کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، نسبت الی النبی کی وجہ سے ان کا لحاظ کرو ان سے برا سلوک کرو نہ ہی ان کو تکلیف دو)

3- سر مصطفیٰ ﷺ، اور داماد مصطفیٰ رضی اللہ عنہما کی آپس میں کسی قسم کی کوئی رنجش، نفرت، عداوت اور ناراضگی نہ تھی۔

اور اسی حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بالفاظ دیگر کتاب المناقب باب صفة

النبی ﷺ کے تحت یوں بیان فرمایا ہے۔

﴿ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان،
فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيهه بالنبي، لاشبيهه بعلي، وعلى
يضحك ﴿﴾

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن (غلمانِ مدینہ) بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھالیا اور فرمایا میرے باپ تم پر قربان ہوں، تم میں رسول اللہ کی شباہت ہے علی کی شباہت نہیں اور علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔
کتاب الشریعة میں قدرے تفصیل سے بیان ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

﴿خرجت مع أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ من صلوة العصر بعد
وفاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بليالٍ وعلي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ يمشي
إلى جنبه فمر بحسن بن علي رضی اللہ عنہ وهو يلعب مع الغلمان
فأحتمله أبو بكر الصديق رضی اللہ عنہ علي رقبتيه وجعل يقول: بأبي شبيهه
النبي، ليس شبيهاً بعلي رضی اللہ عنہ ويضحك ﴿﴾

{ کتاب الشریعة جلد 5 صفحہ 2147 و استاذاہ صحیحہ }

ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دن بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر نکلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چل رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا اور کندھوں پر اٹھالیا اور فرمایا نبی کے مشابہ ہے علی المرتضیٰ کے مشابہ نہیں اور یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

﴿رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
يُشَبِّهُهُ قَلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي- فَقَالَ: كَانَ أبيضَ قَدْسِمِطًا
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: وَرَأَيْتُ بِيضًا مِّنْ تَحْتِ شَفَتَيْهِ السُّفْلَى الْعِنْفَقَةَ﴾

{ بخاری، المناقب، باب صفة النبي }

ترجمہ: میں نے نبی ﷺ کو دیکھا ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہما میں آپ ﷺ کی شباهت پوری طرح موجود تھی، اسماعیل بن ابی خالد نے کہا میں نے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رسول کریم ﷺ کی صفت بیان کریں انہوں نے کہا آپ ﷺ سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے اور بروایت دیگر کہتے ہیں آپ ﷺ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔
خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہر لمحہ چہرہ رسالت کی زیارت کی فرماتے ہیں کہ:

﴿لَمْ يَكُنْ أَحَدًا أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ

بِنِ عَلِيٍّ﴾

{ بخاری، الفضائل اصحاب النبي، باب مناقب الحسن والحسين رضی اللہ عنہما۔ }

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم ﷺ سے مشابہ نہیں تھا۔
مندرجہ بالا احادیث صحیحہ سے واضح ہوا کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہم شکل پیغمبر تھے۔ عکس رسالت کی جھلک آپ میں نظر آتی تھی۔ اہل بیت، آل محمد ﷺ اور حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ ﷺ کے مشابہ تھے۔ آپ ﷺ کے علاوہ بھی چند اشخاص کا تذکرہ ملتا ہے جن کو شارح حدیث علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ انہیں رضی اللہ عنہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر الحسن رضی اللہ عنہ کے

کے تحت ذکر کیا ہے۔

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ محبوب رسول ﷺ ہی نہیں محبوب خدا بھی ہیں:

سرتاج رسل جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ اور اخلاق فاضلہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی کتاب زندگی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رحمۃ للعالمین تھے اور ہر شخص کو محبت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت و مودت کا انداز منفرد اور نرالا تھا۔ دیکھنے والے کی زبان سے یہ کلمات بے ساختہ نکلتے کہ ﴿وَاللّٰهُ اِنَّكَ لَتَفْعَلُ بِهٰذَا شَيْئًا مَا رَأَيْتَكَ تَفْعَلُهُ بِاَحَدٍ﴾

{الفتح الربانی جلد 23 صفحہ 165 الامام الحسن بن علی}

اللہ کی قسم جس طرح آپ حسن رضی اللہ عنہ سے معاملہ کرتے ہیں کسی اور سے کرتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

﴿رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنَ عَلِيَّ عَاتِقَهُ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ

فَاُحِبُّهُ﴾ {بخاری، فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن}

میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر تھے اور آپ ﷺ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ! مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما: سبحان اللہ

قارئین کرام! اس سے بڑھ کر اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی جائے محبت ہیں اور آپ ﷺ بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو بھی اس شہزادے سے محبت فرما اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ محبوب مصطفیٰ ﷺ بھی اور محبوب خدا بھی ہیں۔

ننھا کدھر ہے؟

احادیث رسول ﷺ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا دل حضرت حسنؑ کی محبت میں اس قدر موجزن تھا کہ ذرا سی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب بھی سفر یا بازار سے واپس آتے تو شہزادے کو بلا کر چومنا شروع کر دیتے اور یہ ایک فطری تقاضا بھی تھا اور اس کا صحیح معنوں میں اندازہ وہی نانا کر سکتا ہے جو خود زینہ اولاد سے محروم ہو یا جس کے بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر چکے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو پھول جیسا نواسہ عطا فرمایا ہو۔ سیدنا حسینؑ کی ولادت سے پہلے حضرت حسنؑ چونکہ اکیلے ہی تھے اس لئے وہ آپ کی تمام چاہتوں اور محبتوں کا مرکز ٹھہرے۔

سیدنا و سیدال محمدین حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ

﴿مَا رَأَيْتُ حَسَنًا إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانطَلَقْتُ مَعَهُ فَمَا كَلَّمَنِي حَتَّى جِئْنَا سَوْقَ بَنِي قَيْنِقَاءَ فَطَافَ بِهِ وَنَظَرَ، ثُمَّ انصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فَأَحْتَبَنِي، ثُمَّ قَالَ أَيْنَ لُكَّاءُ؟ أَدَعُ لُكَّاءَ فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْتَدُّ فَوْقَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ فَاةً فَيُدْخِلُ فَاةً فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ انِّي أَحِبُّهُ فَأَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ﴾

ترجمہ: میں نے جب بھی حضرت حسنؑ کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ اس لئے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ گھر سے نکلے اور مجھے مسجد میں پایا۔ پس آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ ﷺ کے ساتھ چلا۔ آپ ﷺ نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے۔ تھوڑا سا گھومنے پھرنے اور دیکھنے کے بعد آپ واپس لوٹے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم مسجد (نبوی) آئے۔ آپ گوٹھ مار کر بیٹھ گئے پھر آپ ﷺ نے کہا: ننھا (چھوٹا) کدھر ہے؟ میرے پاس ننھے کو لے کر آؤ۔ پس حضرت حسنؑ دوڑتے ہوئے آئے اور

آپ ﷺ کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ ﷺ کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالا پھر رسول اللہ ﷺ نے (پیارو محبت اور وجد میں آ کر) حسن کے منہ کو کھول کر اپنا منہ وہاں رکھا پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس (خوش نصیب سے بھی محبت فرما)۔ {سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ المجلد السادس، حصہ دوم صفحہ 726، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل تخریج اور دراسہ کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ کے وہم کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ انہوں نے حسن کی جگہ حسین ذکر کیا جبکہ شواہد و دلائل سے ثابت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ فتح الباری (97/8)

اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت و شفقت بلکہ عقیدت کا یہ عالم تھا خود ہی فرماتے ہیں کہ

﴿أَنَّهُ لَقِيَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَ بَطْنِكَ
فَاكْشَفَ الْمَوْضِعَ الَّذِي قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَهُ قَالَ
وَكَشَفَ لَهُ الْحَسَنَ وَقَبْلَهُ﴾ {مستدرک حاکم 168/3 مناقب حسن}

ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی تو کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے تمہارے پیٹ پر بوسہ دیا پس تو میرے لئے اس حصہ کو ظاہر کرتا کہ میں بھی اسی جگہ کوچوموں جہاں پر رسول اللہ ﷺ نے اپنے لب مبارک لگائے تھے چنانچہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے وہ حصہ ننگا کیا اور میں نے وہاں سے بوسہ دیا۔

اور مسند احمد میں ہے (فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ) آپ کی ناف پر بوسہ دیا۔ اور یہی لفظ امام احمد نے کتاب فضائل صحابہ جلد 2 صفحہ 975 پر نقل کئے ہیں۔

اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مقبری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔

﴿فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ فَوَدَّنا﴾

عليه السلام وَاَلَمْ يَعْلَمُ بِهِ ابُو هُرَيْرَةَ فَقُلْنَا لَهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ الْحَسَنُ
 بِنُ عَلِيٍّ قَدْ سَلَّمَ عَلَيْنَا فَاحْقَهُ وَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا سَيِّدِي ثُمَّ
 قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيِّدٌ ﴿﴾

یعنی اچانک ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب ہمارے پاس تشریف
 لائے اور ہمیں سلام کہا پس ہم نے آپ ﷺ کو سلام کا جواب دیا لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
 عنہ کو آپ کی آمد یا سلام کا پتہ نہ چلا۔ ہم نے کہا اے ابو ہریرہ یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ مانے ہم پر
 سلام کیا ہے پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا (وَعَلَيْكَ
 السَّلَامُ يَا سَيِّدِي) میرے سردار تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے
 لگے میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا یقیناً یہ سردار ہے۔
 {مستدرک حاکم 3/169}

اور مجمع الزوائد کے الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا آپ حسن کو پاسیدی کہہ
 رہے ہیں تو جواباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ﴿أَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهُ سَيِّدٌ﴾ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا یہ سردار ہے۔ {جلد 9
 صفحہ 181 - ورواه الطبرانی و رجاله ثقات}

بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں آپ ﷺ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے گھر
 واپس تشریف لائے پھر آپ نے کہا ننھا کدھر ہے ننھا کدھر ہے پس تھوڑی دیر تک (حسن)
 نآئے ﴿فَظَنَنْتُ اَنَّهَا تَلْبَسُهُ سِخَابًا اَوْ تَغْسِلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَتْهُ وَقَبْلَهُ﴾ میں
 نے گمان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حسن کو ہار پہنار ہی ہیں یا ننھار ہی ہیں پس ننھا دوڑتا ہوا
 آیا اور گلے سے لپٹ گیا اور آپ نے اس کو چوما۔

{اللوواء والمرجان، فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن جلد 2/733}

محبت تھی پیغمبر ﷺ کو حسن رضی اللہ عنہ سے اس قدر

نہ کر شکوہ تو سید کا خدا اپنے سے ڈر (راخ)

رخسارِ حسن رضی اللہ عنہ پر سرکارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب:

سیدنا واما نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اکثر چومتے، سوگھتے اور اپنے صدرِ اطہر سے لگاتے اور کبھی گود میں کھلاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ

﴿أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْبَلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي لَعَشْرَةً مِنَ الْوَكْدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ-

{ صحیح مسلم شریف / جامع ترمذی البر والصلة صباب ماجاء فی رحمة الولد }

ترجمہ: اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے ہیں پس اقرع نے کہا میرے تو دس لڑکے ہیں میں نے کسی ایک کو بھی کبھی نہیں چوما تو رسول رحمت نبی ارحم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ) جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور مستدرک حاکم کے واشکاف سنہرے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ

﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ حَسَنًا وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ يَشُمُّهُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّ لِي ابْنًا قَدْ بَلَغَ مَا قَبَّلْتَهُ قَطُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ فَمَا ذَنْبِي؟﴾

{ مستدرک حاکم، باب مناقب الحسن جلد 3 صفحہ 170 }

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا، گلے لگایا اور سوگھنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ انصار کا ایک آدمی بیٹھا تھا (یہ منظر دیکھ کر اس سے رہانہ گیا) انصاری کہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ ہے جو بالغ ہو گیا ہے میں نے تو کبھی

اس کا بوسہ تک نہیں لیا (آپ سونگھ رہے ہیں چوم رہے ہیں گلے سے لگا رہے ہیں) جو اب میں رحمتہ للعالمین فرمانے لگے کیا خیال ہے تیرا۔ اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال لی ہے تو اس میں میرا گناہ کیا ہے؟

پلٹنا، چمٹنا کبھی گود میں گرتا
یہ تو پھول تھا جو آغوشِ رسالت میں نکھرتا

(راتح)

رأس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب مناقب الحسن کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو مطلق بیان کیا ہے کہ (عائِقَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْحَسَنَ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے معانقتہ کیا (یعنی گلے سے لگایا) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ﴿كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا﴾ {بخاری، فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن} انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔

اس کی شرح میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ بھی نقل کئے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذَنِي فَيَضَعُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيَضَعُ عَلَيَّ الْفَخِذَ الْآخَرَ الْحَسَنَ بَنَ عَلِيٍّ ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا﴾ {فتح الباری 8/69}

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر بٹھا کر چمٹاتے۔ پھر کہتے اے اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم فرما۔

اس حدیث مبارک میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لئے دعا محبت فرمائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم میں ہے کہ جب سالارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا ذمہ مقرر فرمایا تو یہ کچھ لوگوں پر گراں گزرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا آپ لوگ اس کے باپ زید کی امارت پر بھی طعن کرتے تھے حالانکہ اللہ کی قسم وہ امارت کے حقدار

تھے۔

﴿وَإِنْ كَانَ لَمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ، وَإِنْ هَذَا لَمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ

بعده﴾ (اللؤلؤ والمرجان، کتاب فضائل الصحابة باب فضائل زید و اسامۃ 2/735)

اور حضرت زید اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو

مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

لعابِ حسن رضی اللہ عنہ شانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ:

کسی کا لعابِ زمین پہ گرا، کسی کا لعاب کسی کی گود کو لگا، مگر کیا عظمت سیدنا حسن کی کہ آپ کا لعاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک گرتا رہا۔ یقیناً یہ عمل بار بار ہوا ہوگا، کیونکہ بیدار ہونے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا اکثر وقت آغوشِ رسالت میں ہی گزرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتِ حسن سے سیر نہ ہوتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے:

وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَاتِقِهِ وَكُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ (فضائل صحابہ، امام

احمد، حدیث نمبر 1370 اس کی سند صحیح ہے)

حسن ابن علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھا مبارک پہ تھے اور ان کا لعاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے کندھے پر بہ رہا تھا۔

سینہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ کر:

مسجد ہو یا گھر، گلی ہو یا بازار، جہاں بھی یہ ننھا آپ کو دکھائی دیتا، محبت و عقیدت کی عجب تصویر کشی ہوتی، فرطِ محبت کی وجہ سے کسی موقع پر، کسی حال میں بھی اس شہزادے کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار نہ گزرتا۔ عموماً پیارے سے پیارا بچہ بھی اگر پیشاب کر دے تو آدمی کراہت محسوس کرتا ہے مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى صَعِدَ

عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاَبْتَدَرَنهُ لِنَاخْذُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 اِبْنِي اِبْنِي ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (فضائل صحابہ، امام احمد، حدیث
 1385، اس کی سند حسن ہے)

ہم نبی کریم ﷺ کے پاس تھے اچانک حسن ابن علی گھسٹتا ہوا آیا اور آپ کے
 سینہ پر چڑھ کر پیشاب کر دیا، صحابہ کہتے ہیں، ہم حسن کو پکڑنے کے لیے جلدی دوزھے تو
 آپ ﷺ نے فوراً فرطِ محبت میں دو بار فرمایا: (کوئی بات نہیں) بیٹا ہے، (کوئی بات
 نہیں) میرا بیٹا ہے پھر آپ ﷺ نے پانی منگوا لیا اور پیشاب والی جگہ پر بہا دیا۔
 سرکارِ ﷺ نے فرمایا: حاضرین نہ آنے والوں کو بتلا دیں:
 رسول کریم ﷺ کی سیدنا حسنؑ سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ آپ ﷺ نے
 اپنے محبت کرنے والے کو حکم فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا میرے حسنؑ سے
 ضرور محبت کرے۔

زہیر بن اقریبان کرتے ہیں:

بَيْنَمَا الْحَسَنُ يَخُطُبُ بَعْدَ مَا قُتِلَ عَلِيُّ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ
 الْأَزْدِ، أَدَمُ طَوَالَهِ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَضَعَهُ
 فِي حَبُوتِهِ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيَحِبَّهُ فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ
 وَلَوْ لَا عَزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَدَّثْتُكُمْ

{مسند احمد: 5/366 اسنادہ صحیح}

جب کہ حضرت حسنؑ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد خطبہ دے رہے تھے
 کہ قبیلہ ازد کا ایک آدمی اچانک کھڑا ہو گیا جو لمبا اور گندمی رنگ کا تھا اور اُس نے کہا تحقیق
 میں نے رسول اللہ ﷺ نے کو دیکھا آپ اُس کو اپنی گود میں لئے ہوئے تھے اور فرماتے
 تھے جس کو مجھ سے محبت ہے پس وہ اُس سے ضرور محبت کرے اور حاضر غائب تک پہنچا دے۔

اور اگر رسول اللہ ﷺ کی تاکید نہ ہوتی تو میں تم سے یہ حدیث بیان نہ کرتا۔
الحمد للہ! ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
حضرت حسنؑ سے سچی محبت رکھتے ہیں،

ناطقِ وحی کی پیش گوئی نصف النہار کی طرح سچی:

سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے جتنی پیش گوئیاں فرمائیں وہ اپنے
اپنے وقت پر حق اور سچ ثابت ہوئیں اور کئی پیش گوئیاں انشاء الرحمن اپنے وقت پر صحیح ثابت
ہوں گی۔

رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حضرت حسنؑ کے بارہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ سردار
بیٹا میری امت کا مصلح ہوگا۔ اس پیش گوئی کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھ جگہ نقل
فرمایا۔ کتاب الصلح اور کتاب المغن میں باقاعدہ یہ ترجمہ الباب باندھا اور کتاب المناقب
میں باسند حضرت ابوبکرؓ سے روایت لائے کہ

﴿أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَيَّ

الْمَنْبِرِ فَقَالَ: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ قَتَتَيْنِ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

ترجمہ: نبی اکرم ﷺ حسنؑ کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور منبر پر
ان کو لے کر چڑھ گئے پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاپ کر دے گا۔ ایک روایت کے ا
لفاظ ہیں کہ ﴿يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَآيَهُ مَرَّةً﴾ ایک نظر آپ ﷺ
لوگوں کو دیکھتے تو ایک نظر حسن کو دیکھتے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار
ہوگا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قَوَالِلَهِ! وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ وَلِيَ لَمْ يَهْرُقْ فِي خِلَافَتِهِ مِذْيَةٌ مِحْجَمَةٌ

مِنْ دَمٍ۔

”پس اللہ کی قسم! اللہ ہی کی قسم! جب حسن ؑ برسرِ اقتدار آئے تو آپ کے عہدِ خلافت میں سیگی لگوانے جتنا (یعنی تھوڑا سا خون) بھی نہیں بہایا گیا۔

{مسند احمد، 5/44، حدیث 20447، اس کی سند حسن ہے}

وحید الزمان رحمہ اللہ لکھتے ہیں ﴿ان میں صلح کروایگا، یہ پیش گوئی پوری ہوگئی، امام حسن ؑ نے وہ کام کیا کہ ہزاروں، لاکھوں مسلمانوں کی جان بچادی، حضرت معاویہ ؓ سے لڑنا پسند نہ کیا۔ خلافت انہی کو دے دی باوجود کہ ستر ہزار آدمیوں نے آپ کے ساتھ جان دینے پر بیعت کی تھی۔ یہ عالی ظرفی اور یہ جو دو کرم امام حسن ؑ ہی کا کام تھا اور کسی سے نہیں ہو سکتا﴾۔ {تیسیر الباری 4/619}

شارح بخاری محمد داؤد دراز ؒ فرماتے ہیں ﴿آپ کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی حضرت حسن ؑ نے وہ کام کیا کہ ہزاروں مسلمانوں کی جان بچ گئی، حضرت امیر معاویہ ؓ سے لڑنا پسند نہ کیا، خلافت ان ہی کو دے دی حالانکہ ستر ہزار آدمیوں نے آپ کے ساتھ جان دینے پر بیعت کی تھی اس طرح سے آنحضرت کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی﴾۔ مزید دوسری جگہ فرماتے ہیں ﴿حضرت حسن ؑ کے متعلق پیش گوئی حضرت معاویہ ؓ کے زمانہ میں پوری ہوئی جب کہ حضرت حسن ؑ اور حضرت معاویہ ؓ کی صلح سے جنگ کا ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اللہ والوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود نقصان برداشت کر لیتے ہیں مگر فتنہ فساد نہیں چاہتے﴾۔ {شرح بخاری، جلد 5 صفحہ 107-184}

مسند احمد، العجم الکبیر للطبرانی، مسند لہزرا اور صحیح ابن حبان میں یوں بھی ہے کہ

﴿كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّيْ فَيُكَلِّمُ إِذَا سَجَدَ جَاءَ الْحَسَنُ فَرَكِبَ

ظَهْرَهُ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ، أَخَذَهُ، فَوَضَعَهُ عَلَى

الْأَرْضِ وَضَعًا رَقِيْقًا، فَإِذَا سَجَدَ رَكِبَ ظَهْرَهُ، فَلَمَّا صَلَّى أَخَذَهُ،

فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ فَجَعَلَ يُقْبِلُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَفْعَلُ بِهَذَا
الصَّبِيِّ هَكَذَا؟ فَقَالَ إِنَّهُ رِيحَانَتِي وَعَسَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ

يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿﴾

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ ﷺ سجدے میں جاتے
حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ پس نبی ﷺ جب سر
اٹھاتے تو پکڑ کر نرمی اور آرام سے زمین پر رکھ دیتے۔ جب آپ نماز سے فارغ
ہوئے تو آپ ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں بٹھایا اور چومنا شروع ہو
گئے ایک آدمی نے (جب یہ نظارہ محبت دیکھا تو) کہا آپ اس بچے سے ایسے
پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا پھول ہے (اور اس موقع پر بھی فرمایا)
کہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسکے ذریعے دو مسلم جماعتوں میں صلح کرائے۔

{المعجم الكبير، باب العاء جلد 3 رقم الحدیث (2591) مجمع الزوائد 9/178}

{باب ماجاء فی الحسن بن علی}

شارح بخاری محمد داؤد دراز رحمہ اللہ لکھتے ہیں (حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اقدام سے
مسلمانوں میں ایک بڑی جنگ ٹل گئی جبکہ حالات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لئے سازگار تھے مگر
آپ نے اس خانہ جنگی کو حسن تدبیر سے ختم کر دیا۔ اللہ پاک آپ کی روح پاک پر ہزار ہا
ہزار رحمت نازل فرمائے اس طرح رسول اللہ کریم ﷺ کی یہ پیش گوئی سچی ہو گئی جو اس
حدیث میں مذکور ہے۔ اللھم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

{شرح بخاری جلد 8 صفحہ 358}

مورخ شہیر اکبر شاہ خان لکھتے ہیں (حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نہایت حلیم، صاحب
وقار، صاحب حشمت اور نہایت سخی تھے فتنہ و خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔)

{تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی جلد 1 صفحہ 574}

اقبال نے کیا خوب کہا

تا نشیند آتشِ پیکار و کین
پشتِ زد بر سرتاج و تگین

سعودی عرب کے ممتاز عالم دین شیخ عبدالحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”جسے جناب رسول اللہ ﷺ سردار کہیں اس سے بڑا سردار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے بردبار، پرہیزگار اور صاحب علم و فضل تھے۔ ان کے تقویٰ و علم نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے دنیا اور حکومت سے دست کش ہو جائیں۔“ {اہل سنت کے نزدیک اہل بیت علیہم السلام کا مقام و مرتبہ، ص 55}

اے حسن تمہاری رائے کیا ہے.....؟

قاضی سلیمان منصور پوری رضی اللہ عنہ نے ابن قیم رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایک دلچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم دے دیا، اتنے میں ایک اور شخص دوڑ دوڑ آیا اور اس نے خلیفہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ملزم اڈل سے دریافت کیا کہ تو نے کیوں اقبال کیا تھا، اس نے کہا کہ جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی میں نے سمجھا کہ ان حالات کی موجودگی میں میرا انکار کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔ پوچھا گیا کہ واقعہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں قصاب ہوں میں نے جائے وقوع کے قریب ہی بکرے کو ذبح کیا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کا زور پڑا، میں جائے وقوعہ کے قریب پیشاب سے فارغ ہوا کہ میری نظر اس لاش پر پڑ گئی، میں اسے دیکھنے کے لئے اس کے قریب پہنچا، دیکھ رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا، سب لوگ کہنے لگے کہ یہی شخص اس کا قاتل ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے سامنے میرے بیان کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، اس لئے میں نے اقبال جرم کر لینا ہی بہتر سمجھا۔

اب دوسرے اقبالی مجرم سے دریافت فرمایا: اس نے کہا میں ایک اعرابی ہوں، مقلنس ہوں، مقتول کو میں نے بہ طمع مال قتل کیا تھا، اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی، میں ایک گوشہ میں جا چھا، اتنے میں پولیس آ گئی، اس نے پہلے ملزم کو پکڑ لیا

اب جب کہ اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل نے مجھے آمادہ کیا کہ میں خود اپنے جرم کا اقبال کروں۔

یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر اس شخص نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان بچائی بھی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مِثْلَ مَنْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ کو قبول فرمایا دوسرے طزم کو بھی چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے دلایا۔ (رحمۃ للعالمین، 115-116، الطرق الحکمیہ، ابن قیم، 56)

رسالت کے سائے تلے:

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کم و بیش آٹھ سال کا طویل عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت اور نگرانی میں بسر کیا۔ آغوشِ رسالت میں پرورش پانے والے اس شہزادے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آمدہ مسائل و واقعات کو بھی ذہن نشین رکھا ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ

مَرَّتْ جَنَازَةٌ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَامَ
الْحَسَنُ وَقَعَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ النَّبِيُّ
لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ أَوْ يَهُودِيَّةٍ مَرَّتْ بِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - بَلَى وَ

جلس (المعجم الكبير، 3/87 حدیث 2744 - السنن الكبرى، 4/28)

ترجمہ: حضرت ابن عباس اور حسن رضی اللہ عنہما کے قریب سے جنازہ گزرا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے۔ (ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بیٹھا دیکھ کر) حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک یہودی یا یہودیہ کا جنازہ جب گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے کیوں

نہیں (یعنی آپ ﷺ کھڑے ہوئے تھے) مگر بعد میں آپ نے یہ کھڑا ہونا چھوڑ دیا تھا اور بیٹھے رہتے تھے۔
دوسری میں ہے ابو الحوراءؓ بیان کرتے ہیں کہ

﴿كُنَّا عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فُسئِلَ: مَا عَقَلْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ يَوْمَهُ فَمَرَّ عَلَيَّ جَرِينٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَوَجَدْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي فَأَخْرَجَهَا بِلُعَابِي فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: مَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَ كَتَمَهَا قَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ﴾ {مسند احمد، 1/200 مجمع الزوائد 3/93 الصدقة لرسول الله وقال رجال احمد ثقاة

المعجم الكبير 3/78 حدیث 2715- صفحہ 86 حدیث 2741}

ترجمہ: ہم حضرت حسنؓ کے پاس تھے کسی نے سوال کیا کہ آپ ﷺ کو رسول اللہ ﷺ کی کوئی بات یاد ہے؟ تو سیدنا حضرت حسنؓ فرمانے لگے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا آپ ﷺ کجھور کے ڈھیر کے پاس سے گزرے جو صدقہ کی کجھوروں کا تھا تو میں نے ایک کجھور پکڑ کر منہ میں ڈال لی آپ ﷺ نے میرے لعاب والی کجھور کو نکالا۔ بعض لوگ کہنے لگے اگر آپ سہنے دیجے تو کیا حرج تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا آل محمدؓ پر صدقہ حلال نہیں۔

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے والہانہ محبت و عقیدت کے باوجود تربیت کے مواقع ضائع نہیں کئے، بلکہ ہر مناسب موقع پر اصلاح فرماتے ہوئے، سیدھی راہ دکھائی، ہمیں بھی اپنی نگرانی اولادوں سے جائز ناجائز سب کچھ نہیں کروانا چاہیے بلکہ غلط، ناجائز اور حرام کے ارتکاب پر فوراً روک دینا چاہیے۔ یہی اسوۂ رسول ﷺ سے

ہمیں درس ملتا ہے۔

اسی طرح نماز وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہی سے سیکھی تھی، اور یہ دعا اس قدر جامع اور ہم ہے کہ دنیا و آخرت کی کوئی ایسی بہتری اور بھلائی نہیں جس کا ذکر اس مختصر اور جامع دعا میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں موجود نہ ہو۔

ابو حوراء سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ
أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِي مَنْ
عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَرَقِّنِي شَرَّ
مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَدْبُلُ مَنْ
وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

{جامع ترمذی باب ماجاء فی القنوت 317/1 السنن الکبریٰ 2/209، اس کی سند صحیح ہے}

”حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ ﷺ نے کچھ کلمات سکھائے جو میں وتر میں پڑھتا ہوں، اے اللہ! مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لئے برکت ڈال دے اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچالے۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا اور جس سے تو محبت کرے وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا اور وہ شخص عزت نہیں پاسکتا جس کا تو دشمن ہو ہمارے پروردگار آقا! تو (بڑا) ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔“

ان روایات سے واضح ہوا کہ آپ ﷺ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں کافی سمجھدار، ہوش مند اور بڑے تھے۔

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا خوفِ خدا:

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہما ہمہ صفت موصوف انسانِ کامل تھے۔ والد اور نانا کی تربیت کا مزاج پر بڑا گہرا اثر تھا، ساری زندگی صدقات و حسنات میں بسر کر دی۔ دنیا کی محبت کو قریب تک نہ پھٹکے دیا۔ جی بھر کے اللہ کی عبادت کرنے والے جنت کے یہ سردار اس قدر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور قدرت سے لرزہ بر اندام رہتے تھے، روضۃ الواعظین میں ہے:

أَنَّ الْحَسْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ تَعَدَّتْ مَفَاصِلُهُ
وَاصْفَرَّ لَوْنُهُ فَيَقِيلُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقُّ عَلِيٍّ كُلِّ مَنْ وَقَفَ
بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعَرْشِ أَنْ يَصْفَرَ لَوْنُهُ وَتَرْتَعِدَ مَفَاصِلُهُ

{بحار الانوار، 43/339}

حضرت حسن رضی اللہ عنہما جب وضو کرتے تو آپ کے جوڑ کانپتے اور رنگ زرد ہو جاتا، آپ سے اس کے متعلق کہا گیا تو آپ نے فرمایا: ہر اس بندے پر جو عرش کے رب کے سامنے کھڑا ہو لازم ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو اور اس کے جوڑ کانپ اٹھیں۔

اور اسی طرح آپ ﷺ جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اشراق تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ سبحان اللہ

اہل تاریخ نے آپ کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے کئی مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا، ایک تعداد کے مطابق آپ نے کم و بیش بیس پچیس حج کئے۔ زیادہ تر آپ پیدل حج کیا کرتے تھے، ساکل نے دریافت کیا کہ آپ سواری کی سہولت کے باوجود پیادہ حج کیوں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: لگے، ادنی غلام اپنے عظیم مولا کے سامنے سوار ہو کر نہیں بلکہ پیادہ جاتا ہی اچھا لگتا ہے۔

حضرات قارئین کرام! آج بعض احباب اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت

کے بلند و بانگِ دعوے تو کرتے ہیں مگر اُن کی سیرت کی ایک جھلک بھی اُن کے اندر نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باکردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

فرزندانِ سیدنا حضرت حسنؑ

مشہور سیرت نگار امام ابوالحدیث حضرت سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”امام ہمام کے بارہ بیٹے تھے:

1 زید۔ 2 حسن ثنیٰ۔ 3 حسین۔ 4 طلحہ۔ 5 اسماعیل۔ 6 عبداللہ۔ 7 حمزہ۔ 8 یعقوب۔ 9 عبدالرحمن۔ 10 ابوبکر۔ 11 قاسم۔ 12 عمر

پانچ بیٹیاں:

1 فاطمہ۔ 2 ام سلمہ۔ 3 ام عبداللہ۔ 4 ام الحسین رملہ۔ 5 ام الحسن

امام حسن کی نسل ان کے چار فرزندوں یعنی زید، حسن ثنیٰ، حسین الاثرم اور عمر سے جاری ہوئی تھی مگر حسین اور عمر کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب دنیا میں زید اور حسن ثنیٰ کی اولاد باقی ہے۔ اولاد حسن علیہ السلام میں سے عمر اور قاسم اور عبداللہ میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ {رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، 2/116 بحار الانوار 44/163 تا 173}

جنازہ و شہادت:

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کی 47 بہاریں دیکھیں، مستند روایات میں ہے کہ

﴿تَوَفَّى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ﴾

(مجموع کبیر، 3/71، نمبر 2693 اس کی سند صحیح ہے)

”سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ 47 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر شخص جانے کیلئے ہی آتا ہے، عام نیک لوگوں کے جنازوں پر خلقِ خدا سیلاب کی طرح اٹھ آتی ہے لیکن جب نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ بتول، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہوگا تو یقیناً مدینہ اپنی دستوں کے باوجود تنگی داماں ہی کا شکار ہوا

ہوگا۔ آپ ﷺ تقریباً 49 یا 50 ہجری کو یوحنا ہر شہادت پائی۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مَاتَ شَهِيدًا بِالسَّمِّ (تقریب التہذیب ترجمہ حسن)
وہ شہید فوت ہوئے زہر کے ساتھ۔

{یاد رہے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زہر کی نسبت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا قطعاً غلط ہے۔ تفصیل کیلئے کتب تاریخ دیکھیں، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ عالم الغیب نہیں تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو زہر نکلنے}

ثعلبہ بن مالک جو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں شریک تھے، فرماتے ہیں کہ آپ کے جنازہ میں اس قدر ہجوم تھا، اتنی کثیر تعداد میں لوگ آئے کہ دو کو طرحتِ بئرۃ ما وَقَعْتُ الْأَعْلَى رَأْسَ الْإِسْلَامِ (مستدرک حاکم: 3/173، الاصلیہ: 2/13)
اگر سوئی کو پھینک دیا جاتا تو وہ بھی کسی انسان کے سر پر ہی گرتی۔

یعنی لوگوں کی تعداد حد درجہ زیادہ تھی اور آپ کا جنازہ مدینہ کے گورنر سعید بن عاص نے پڑھایا۔ جس طرح کہ روایت میں موجود ہے، ابو حازم کہتے ہیں:

فَرَأَيْتُ الْحُسَيْنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ عَاصٍ وَيَطْعَنُ فِي عُنُقِهِ
تَقَدَّمَ فَلَوْلَا سَنَةٌ مَأَقْدَمَتَ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ

{مستدرک حاکم 3/171، مسند احمد: 2/531، سنن البيهقي: 4/8}

میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ سعید بن عاص سے کہہ رہے تھے، گرد سے دھکیل کر کہ، آگے بڑھ..... اگر سنت نہ ہوتی تو آگے نہ کیا جاتا، یعنی نماز جنازہ میں۔
بالا خرم مدینہ میں طلوع ہونے والا یہ سورج مدینہ میں ہی غروب ہو گیا۔

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام اہل حدیث کی نظر میں:

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

کے پہلے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کی لائی

ہوئی شریعت کے مطابق ساری زندگی بسر کی ہے، آپ نیک نامی میں اپنی مثال آپ ہیں اور بلاشبہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ آپ سے بغض رکھنا موجب لعنت ہے آپ سے عقیدت و محبت موجب رحمت ہے۔

ہمارے اسلاف میں سے جس امام و مورخ نے بھی آپ کا ذکر شروع کیا تو مدح و ستائش سے اُس کا قلم جھوم اٹھا۔ ضیافتِ طبع کے لئے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے یوں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ:

الإمامُ السَّيِّدُ رِجْحَانَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْمَدَنِيُّ الشَّهِيدُ

{السر 3/246}

آپ امام، سردار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول، آپ کے نواسے، جوان جنتیوں کے سردار، ابو محمد، قرشی، ہاشمی، مدنی اور شہید فی سبیل اللہ ہیں۔“

مزید فرماتے ہیں:

”حضرت حسن رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے امام، سردار، حسین و جمیل، عقل مند، سمجھدار، سخی، ناقابلِ تعریف، نیک سیرت، دیندار، پرہیزگار، صاحبِ وجاہت اور بڑی شان والے تھے۔“

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ دَائِمًا ابْدًا

آمین ثم آمین

مختصر تعارف

حسین بن علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم مکمل نام:

ابوعبداللہ کنیت:

مدینہ طیبہ جائے پیدائش:

شعبان 4، ہجری، 4 جنوری 626 م تاریخ پیدائش:

حسن رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تقریباً ایک سال

حضرت علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہما سے رشتہ: دوسرے بیٹے

آپ ﷺ کی زندگی میں کتنی عمر کے تھے: کم و بیش 6 سال

چار بیٹے دو بیٹیاں اولاد:

ملک عراق میدان کربلاء جائے شہادت:

10 محرم 61، ہجری تاریخ شہادت:

سرزمین کربلاء کہاں دفن ہوئے:

سیدنا حضرت حسینؑ

نام حسینؑ بھی انتخابِ پیغمبر ہے!

سیدہ فاطمہؑ کے شکمِ اطہر سے جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ تو پہلے کی طرح اس کا نام بھی سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ نے ایک روایت کے مطابق حرب رکھا۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے حکم خداوندی کے مطابق پہلے نواسے کی طرح دوسرے نواسے کا نام بھی خود ہی تجویز فرماتے ہوئے حسین رکھا، آپ پڑھ چکے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: کہ مجھے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یقیناً یہ حکم رسول اللہ ﷺ کو اللہ ہی کی طرف سے تھا۔

عقیقہ حضرت حسینؑ:

حضرت حسینؑ، سیدنا حضرت حسنؑ سے کم و بیش ایک سال چھوٹے تھے۔ جس طرح ولادتِ حسنؑ پر آپ نے عقیقہ کیا، اسی طرح سیدنا حضرت حسینؑ کی پیدائش کے بعد آپ ﷺ نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا۔ جس کی وضاحت و صراحت تیسرے باب شانِ الحسنین میں آئے گی اِنْشَاءَ اللّٰهِ الْعَمَّانِ

نانا سے مشابہت:

خادمِ رسول سیدنا حضرت انس بن مالکؓ نے کم و بیش دس سال آپ کی خدمت میں گزارے، لمبا عرصہ دربارِ رسالت کی فیوض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہے، اس قدر عالی مرتبت صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ

﴿أَتَى عَبِيدَ اللَّهِ بْنِ زَيَْادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَجَعَلَ فِي طُسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسٌ:

﴿كَانَ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ﴾

{بخاری کتاب المناقب مناقب الحسن والحسين}

جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک تشت میں حضرت حسینؑ کا سر مبارک لایا گیا تو وہ (بد بخت) اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا۔ اس پر حضرت انسؓ نے فرمایا حضرت حسینؑ رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور آپ کا سر و سہ سے رنگا ہوا تھا۔

صحیح جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ سیدنا حضرت انسؓ فرماتے ہیں:

﴿كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِئْتُ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ:

بِقَضِيْبٍ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا لَمْ يُذْكَرْ،

قَالَ: قُلْتُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ﴾

{صحيح سنن ترمذی المناقب 4 / 201}

ترجمہ: میں ابن زیاد کے پاس تھا جب اس کے پاس حضرت حسینؑ کا سر لایا گیا، تو وہ چھڑی کے ساتھ آپ کی ناک پر مارتے ہوئے (بطور تحکم) کہنے لگا، میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا، اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے، انسؓ فرماتے ہیں میں نے کہا، یہ تو ان میں سے ہے جو رسول اللہ ﷺ کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔

حدیث صحیح سے واضح ہوا کہ سیدنا حسینؑ بھی رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے، عکس رسالت کی جھلک تھے، سیدنا حسینؑ کی مشابہت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ فرماتے ہیں کہ

﴿مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبِهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَى وَجْهِهِ وَشَعْرَةَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ،

وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبِهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ

عنقه إلى كعبه خَلْقًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ؑ

{مسند احمد، مسند علی، کتاب الشریعة، باب الحسن والحسین 2146/5}

کتاب فضائل الصحابة جلد 2 صفحہ 973 اسنادہ حسن}

ترجمہ: جو چاہے کہ گردن، چہرہ اور بالوں کے لحاظ سے رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حسن ؑ کو دیکھ لے، اور جو چاہے کہ گردن سے ٹخنوں تک رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حسین ؑ کو دیکھ لے۔

حسین ؑ سے محبت رکھنے والے سے اللہ محبت فرمائے:

رسول اکرم ﷺ آپ ؑ سے بہت محبت فرماتے تھے ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو حسین ؑ سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ سبحان اللہ
سیدنا حضرت علی بن مرہ ؑ فرماتے ہیں کہ:

﴿أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ
دُعُوا لَهُ فَاذًا حُسَيْنٌ يُلْعَبُ فِي السَّكَّةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الْغَلَامُ
يَفْرُهُنَا وَهَهُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ
فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ أَحَبِّ
حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سَبَطُ مِنَ الْأَسْبَاطِ﴾

{ابن ماجہ، 15/1۔ صحیح سنن الترمذی 204/4۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔}

الفضائل . 102/12 . صحيح موارد الظمان المناقب 2/368 سلسلۃ

الاحاديث الصحيحة 3/229 حديث 1227 {

ترجمہ: چند صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت پر گئے، جس کے لئے مدعو کئے گئے تھے، پس اچانک حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ (نانا جان کو دیکھ کر) ادھر ادھر اچھلنے، کودنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو ہنسا رہے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکڑا اور اپنا ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے اور ایک سر کے پچھلی طرف رکھا اور (رخسار حسین پر) بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین نو اسوں میں سے ایک نو اسہ ہے۔

اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے جاندار اور شاندار جملے ارشاد فرمائے جس سے عظمت حسین کی انتہاء فرمادی۔

(1) حُسَيْنٌ مِّنِّيْ وَ اَنَا مِنْ حُسَيْنٍ

حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔

(2) اَحَبُّ اللّٰهِ مِنْ اَحَبِّ حُسَيْنًا

حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت فرمائے۔

(3) سَبْطٌ مِّنَ الْاَسْبَاطِ

نو اسوں میں سے ایک نو اسہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ایسے عظیم صحابی رسول کی دل و جان سے نکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مستدرک حاکم میں ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ حَامِلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ

يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُ فَاجِبْهُ﴾ (مستدرک حاکم، مناقب حسین، 3/177)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ حسینؑ کو اٹھائے فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما۔

دنیا میں جنت کا مہمان دیکھ لو:

نبی اکرم ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دی اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان عام فرمایا۔ انہی خوش نصیب اصحاب رسول میں سیدنا حضرت حسینؑ بھی شامل ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی گواہی سرکارِ دو عالم ﷺ نے زبان رسالت سے خود دی۔

حدیث صحیح میں ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے۔

﴿مَنْ سَرَّأَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ﴾ {مجمع الزوائد 9/192۔ امام ترمذی فرماتے ہیں (رجالہ رجال

الصحيح) مسند أبي يعلى 3/397 حدیث 1874۔ المسند بتحقيق الأثرى 2/

348 حدیث 1868۔ صحيح موارد الظمان 2/368، كتاب فضائل الصحابة

973/2۔ السلسلة الصحيحة 7/1732 حدیث 4003

ترجمہ: جس کو پسند ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ایک آدمی کو دیکھے پس حسینؑ بن علیؑ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ

قارئین کرام! سیدنا حضرت حسینؑ ان خوش نصیب اہل بیت میں سے ہیں کہ جن کے جنتی و بہشتی ہونے کی بشارت حضور نبی کریم ﷺ نے خود دی۔ اس سے بڑھ کر سعادت مندی و خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مبشر بالجنة سیدنا حضرت حسینؑ کی قبر پر کروڑ رچتیں اور بخششیں نازل فرمائے اور ہمیں ان سے عقیدت رکھنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

کاندھلوی صاحب کی خیانت:

شانِ حسینؑ پر مشتمل احادیث پڑھ کر ایک سچے محبِ رسول کا دل باغِ باغ ہو جاتا ہے اور بسا اوقات آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں مگر محرومی قسمت کہ بعض ناصبی حضرات فضائلِ حسین کریمینؑ کے متعلق وارد روایات کو برداشت نہیں کرتے بلکہ اُن کی موٹا گافیاں پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان شہزادوں کی فضیلت میں آنے والی حدیث نے اُن کے آنگن میں آگ لگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی احادیث کو ضعیف ثابت کرنے کیلئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتے ہیں اور حضراتِ محدثین کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے بھی ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔

یہاں پر سببُ من الاسباط کے حوالہ سے میں اس تعصب و ہٹ دھرمی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا اظہار حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی نے اپنی کتاب ”مذہبی داستاںیں اور ان کی حقیقت حصہ سوم“ میں کیا ہے۔

موصوف لکھتے ہیں کہ قرآن میں اسباطِ نواسے کے معنی میں نہیں آیا بلکہ ہر مقام پر پوتے کے معنی میں آیا ہے۔ نیز ہر وہ روایت جس میں لفظ سبطِ نواسے کے معنی میں ہو شیعہ کی اختراع ہے۔ اور اس میں تشبیح کا فرمایا ہے اور اس لفظ کا وجود روایت کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے صفحہ 599

کاندھلوی صاحب کا یہ کہنا سراسر مبنی بر جہالت ہے یا تجاہلِ عارفانہ ہے وگرنہ لغتِ عرب میں، سبط، پوتوں اور نواسوں دونوں کے لئے مستعمل ہے قرآن مجید میں اگرچہ نواسے کے معنی میں نہیں آیا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ مشہور کتاب تاج العروس میں ماہر لغتِ عرب السید مرتضیٰ الزبیدی فرماتے ہیں ﴿كَلَامُ الْأَنْثَمَةِ صَرِيحٌ أَنَّهُ يَشْمَلُ وَلَدَ الْإِبْنِ وَالْإِبْنَةَ﴾ لفظ سبط بیٹے و بیٹی دونوں کی اولاد کو شامل ہے بلکہ نواسوں پر اس کا اطلاق یہی زیادہ مشہور ہے ﴿وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَخِيرُ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعَامَةِ﴾ مزید دیکھیں {تاج العروس جلد 5 صفحہ 148}

مشہور لغوی محمد بن مکرم الانصاری المعروف ابن منظور اپنی معروف زمانہ کتاب

میں لکھتے ہیں کہ سبط ﴿ولد الإبن والإبنة﴾ پوتوں، نواسوں دونوں کے لئے ہے۔

{لسان العرب جلد 9 ص 181}

اور المعجم الوسيط جلد 1/ 414 میں بھی یہی عبارت ہے کہ ﴿السبط

ولد الإبن والإبنة﴾ نیز یاد رہے کہ کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ نواسے بھی اپنے نانا کی اولاد میں شریک ہوتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حجاج بن یوسف نے امام یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑے ظالمانہ انداز سے پوچھا اور تہدید آمیز لہجہ سے کہنے لگا کہ دلائل سے ثابت کرو حضرت حسنؑ و حسینؑ رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں سے تھے؟ وگرنہ میں تمہارا براہِ حشر کروں گا۔ تو امام یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ نے سورہ انعام کی 85 آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا گیا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے بتلاؤ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا باپ کون ہے؟ یہ عالمانہ و فقیہانہ جواب سن کر ظالم حیران رہ گیا۔ {تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 173}

اور امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ﴿وَعَدَّ عِيسَىٰ مِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرَاهِيمَ وَاَتَمَّ هُوَ ابْنُ الْبِنْتِ فَاولادُ فاطمةَ رضی اللہ عنہا ذُرِّيَةُ النَّبِيِّ ﷺ وبهذا تَمَسَّكَ من رأى ان ولد البنات يدخلون فى اسم الولد﴾ عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا گیا ہے حالانکہ وہ بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پس اولادِ فاطمہؑ رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں شامل ہیں یہی ان حضرات کی دلیل ہے جو نواسوں کو اولاد میں شامل قرار دیتے ہیں۔

مگر دعویٰ باطل کے مطابق مطلب کی عبارت نقل کرنا باقی تمام دلائل و قرآن اور حقائق و شواہد کو ہضم کر جانا کا نہ ہلوی صاحب کی امتیازی خوبی اور عادت سیئہ ہے اور یاد رہے اسی مقام پر ہی نہیں کئی ایک مقامات پر کا نہ ہلوی صاحب نے ذخیرہ حدیث کو داغ دار کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور حسنین کریمین سے بغض و عناد ظاہر کیا ہے، اس مذموم کاوش کا مفصل تعاقب میرے مشفق بزرگ اور ممتاز عالم دین ارشاد الحق الاثری حفظہ اللہ کی کتاب (احادیث صحیح بخاری و مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش) میں ملے گا۔

سبط من لأسباط کا مفہوم بعض نے امت من الامم بھی کیا کہ حضرت حسینؑ خیر و بھلائی میں ایک اُمت ہیں یا آپ ﷺ حضرات انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں۔

{النهیة لابن الاثیر جلد 3 / 153}

شہادتِ حسینؑ کی پیش گوئی یا یہ تکمیل کو:

ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا حضرت حسینؑ کو سن 61 ہجری میں جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا اس کا تذکرہ سید الرسل جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان رسالت سے خود فرمایا اس ضمن میں کئی ایک احادیث مروی ہیں جو تو انین محدثین کے مطابق بالکل صحیح ہیں اور ائمہ محدثین نے انہیں صحیح تسلیم کیا ہے۔ محض ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان صحیح احادیث کو تسلیم نہ کرنا یقیناً بہت بڑی جرأت و جسارت ہے۔ جس طرح آپ ﷺ کی دیگر پیش گوئیاں اپنے اپنے وقت پر سچ ثابت ہوئیں، اسی طرح یہ پیش گوئی بھی برحق نکلی۔

سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيَمَا يَرَى النَّائِمُ ذَاتَ يَوْمٍ يَنْصَفِ
النَّهَارِ أَشَعَثَ أَغْبَرَ بِيَدِهِ قَارُورَةً فِيهَا دَمٌ، فَقُلْتُ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي،
مَا هَذَا؟ قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلُ أَلْتَقِطُهُ
مُنْذُ الْيَوْمِ، فَحَفِظْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدْنَاهُ قَتْلَ ذَلِكَ

الْيَوْمِ۔ (مسند احمد، 1/242، هداية الرواة 5/462، حديث: 6130 الشيخ الباني، الشيخ

دس، الشيخ زبير على زنى سبت دگر محدثین و مشائخ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔)

میں نے ایک دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جس طرح سونے والا (خواب) دیکھتا ہے، پراگندہ اور خاک آلود پاؤں تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ

حسینؑ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جس کو میں آج چنتا رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس دن کو یاد رکھا تو میں نے پایا کہ ان کو اس دن قتل کیا گیا۔

امام اہل حدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں {معلوم ہوا کہ یہاں جو حضرت حسین پر رنج و تکلیف ہوئی اُس کا حال دریافت کر کے عالم ارواح میں آپ کو رنج ہوا، اور مغموم ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، شمر اور خولی وغیرہ مردودوں نے حضرت حسینؑ کو رنج پہنچایا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے حضرت کے اہل بیت کو دنیا میں یا آخرت میں رنج پہنچے۔}

(حاشیہ مشکوٰۃ مترجم، کتاب المناقب، مناقب اہل بیت، الفصل الثالث)

اور اسی طرح ترجمان مسلک الامحدیث علامہ زبیر علی زئی حفظہ اللہ اپنی مخرج اور محقق کتاب محبت ہی محبت صفحہ 105 پر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: {اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسینؑ کی شہادت پر سخت غمگین تھے۔}

ایک روایت میں شہادتِ حسینؑ کی پیش گوئی کی طرف بائیں الفاظ اشارہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن نجی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ

سَارَمَعَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَتِهِ، فَلَمَّا
حَازَى نِينَوِي وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صَفِينٍ، فَنَادَى عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِشَطِّ الْفِرَاتِ قُلْتُ:
وَمَاذَا؟ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ
وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَأَغْضَبَكَ أَحَدٌ مَأْشَأَنُ
عَيْنَيْكَ تَفِيضَانِ؟ قَالَ: بَلَى، قَامَ مِنْ عِنْدِي جَبْرِيلُ قَبْلُ
فَحَدَّثَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يَقْتُلُ بِشَطِّ الْفِرَاتِ قَالَ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ أَنْ
أَشْمَكَ مِنْ تُرْبَتِهِ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، فَمَدَّ يَدَهُ فَقَبَّضَ قَبْضَةً مِنْ
تُرَابٍ فَأَعْطَانِيهَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي أَنْ قَاضَتْكَ

{جمع الزوائد 9/ 190} باب مناقب الحسين بن علي عليها السلام، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوۃ أحمد و ابو یعلیٰ و البزار و الطبرانی و رجالہ ثقات مسند ابی یعلیٰ 1/ 498 حدیث 363، اس کی سند حسن ہے، و اشار الشیخ الأثری السی کو نہ حسنا 1/ 206 حدیث 358. کتاب الشریعة جلد 5 صفحہ 2175 باب أخیار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحسین۔ الشیخ عبداللہ الدبیجی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے، نیز الشیخ عبدالقادر جوندل و الشیخ حسین سلیم احمد نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے۔ ہذا مش المطالب العالیۃ ج 8 صفحہ 249 باب مقتل حسین۔ محدث شہیر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ جلد 3 صفحہ 159 حدیث 1171 کے تحت ذکر کیا ہے۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے طلبہارت کا پانی اٹھاتے تھے، وہی کیسا تھ سفر پر گئے اور صفین کو جاتے ہوئے جب مقام نیوی پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی اے ابو عبد اللہ، اے ابو عبد اللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے رو رو کر کیا حالت ہے آپ کی آنکھوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیوں نہیں۔ ابھی جبرائیل میرے پاس سے گیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی آپ کو سونگھا دوں۔ میں نے کہا ہاں، پس جبرائیل نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ایک مٹھی بھر مٹی پکڑی اور مجھے پکڑادی۔ پس پھر میری آنکھیں قابو میں نہ رہیں حتیٰ کہ آنسو بہہ نکلے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی خبر سن کر شدت غم و تأسف کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زار و قطار رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قابو میں نہ رہیں، مگر افسوس کہ آج کا محقق ذکر شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی، سلطنت کا حریص اور خطا کار ثابت کرتا ہے، اور اس المناک واقعہ پر افسردگی کی بجائے اس کے چہرے پر، اس کے قلم سے گستاخی و بے ادبی کے جذبات اور جراثیم ظاہر ہوتے ہیں۔ اعادنا اللہ منہ آمین ثم آمین

یاد رہے! سیدنا حسینؑ کے متعلق غیر مناسب رویہ ناصبی حضرات کا ہوتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ اہل حدیث کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے۔ الحمد للہ کوئی ثقہ اہل حدیث عالم آپ کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہی نواصب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جملۃ الدعوة کے مرکزی ادارہ المعهد العالی مرید کے فاضل مولانا تفضیل احمد لکھتے ہیں کہ: شہادتِ حسینؑ پر بعض نام نہاد تحقیق نگاروں اور ناقدین نے اپنے قلم تشبیہ کی صورت میں استعمال کر کے عظمتِ حسینؑ کی بے بند عمارت میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اسی طرح بعض افسانہ نگاروں نے اسے داستا نوں میں بدل دیا ہے۔ (ہمیں حسینؑ سے محبت کیوں؟ صفحہ 78)

امام العصر محدث الدرہ شیخ الاسلام علامہ البانی رحمہ اللہ نے دیگر روایات کو بھی نقل فرمایا ہے جن میں سے دو مختصر روایات درج فرمائی ہیں۔
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا (يَعْنِي الْحُسَيْنَ) فَقُلْتُ أَهَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ تَرْتِيهِ حَمْرَاءُ﴾

{السلسلة الصحيحة 2/484 حدیث 821}

ترجمہ: میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے مجھے خبر دی کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں اور وہ میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی لے کر آیا۔

اور اسی طرح ایک روایت کے الفاظ چھ یوں ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا فَقَالَ:

إِنَّ ابْنَكَ هَذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتَكَ مِنْ تُرْبَةِ

الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا﴾ {السلسلة الصحيحة 2/485 حدیث 822}

ترجمہ: میرے گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس نے کہا یقیناً تمہارا بیٹا

حسین قتل کر دیا جائے گا اور اگر تو چاہے تو میں تجھے اس زمین کی مٹی دکھاؤں
جہاں پر قتل ہوگا۔

اس ضمن میں عمارہ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ جس روز حضرت حسین بن علیؑ کو شہید کیا گیا تو ہم خالد بن عرفطہ کے پاس تھے، تو خالد نے ہمیں بیان کیا:

هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَبْتَلُونَ فِي

أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَعْدِ-

(رواه الطبرانی والمزار مجمع الزوائد 194/9 اس کی سند صحیح ہے)

یہی میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم
میرے بعد میرے اہل بیت کے معاملہ میں آزمائے جاؤ گے۔“

حضرات محدثین علیہم السلام کرام کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق ان احادیث صحیحہ
کی روشنی میں واضح ہوا کہ شہادت حسینؑ کی خبر آپ کو بذریعہ فرشتہ دی گئی تھی۔ اور
آپ ﷺ سنتے ہی بے اختیار رو پڑے اور شدت غم کا اظہار فرمایا۔ سلامُ اللہِ عَلَیْهِمَا

پھول سا چہرہ بھی مرجھایا شہادت حسینؑ پر

تو بے فکر، کرتا ہے ذکر، مسکراتے ہوئے (راہِ)

اور یاد رہے رسول اکرم ﷺ نے دوسری صحیح روایات میں پیش گوئیاں بیان فرماتے ہوئے
ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ظالم لوگوں کی حکمرانی ہوگی اور میری امت کی تباہی، قریش
کے چھو کروں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اسی لئے تو سیدنا ابو ہریرہؓ 60ھ کے بعد والے فتنوں
اور ظلموں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ (صحیح بخاری، کتاب المغن، حدیث: 7058، مع فتح الباری)

قاتلین حسین کے متعلق ہمارے اسلاف کا موقف:

ہم تو کسی ادنیٰ صحابی کی ادنیٰ سی توہین کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، چہ جائیکہ
ہم قاتلین حسینؑ کو اچھا سمجھیں..... کون ہے.....؟ جو مسلمان بھی ہو اور نواسہ
رسول جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسینؑ کے قاتلین سے محبت رکھتا ہو.....؟ ہمارا یہ

ایمان ہے کہ ایک دل میں یہ دو چیزیں قطعاً نہیں ساسکتیں۔ بعض احباب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قاتلین حسین سے خیر خواہی کرتے ہوئے اُن کا دفاع کرتے ہیں حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ہمارے نزدیک قاتلین حسین سے بغض رکھنا فرض ہے۔ تمام اہلحدیث قاتلین حسین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ البتہ تاریخی روایات کے تضاد کی وجہ سے ہم حتمی طور پر آپ کے قاتلین کا تعین نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے ہم کسی معین شخص پر لعنت نہیں کرتے۔ اور معین شخص پر لعنت کرنا شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق درست نہیں۔ البتہ اجمالی طور پر قاتلین حسین سے ہم کلمی طور پر براءت و نفرت کرتے ہیں۔ مشہور محدث و فقیہ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

﴿لَوْ كُنْتُ فِيمَنْ قَاتَلَ الْحُسَيْنَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ

لَأَسْتَحْيِيَهُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيَّ وَجِدَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ﴾

{ معجم کبیر طبرانی، 3/112 روایت 28، 29، اس کی سند حسن ہے۔ الاصابۃ 2/17 }
اگر میں اُن لوگوں میں ہوتا جنہوں نے حسین سے لڑائی کی پھر میں جنت میں داخل ہو جاتا البتہ میں شرم محسوس کرتا کہ رسول اللہ ﷺ کے چہرے کی طرف دیکھوں۔
اور یقیناً دنیا کی بدنامی کے ساتھ ساتھ جب قاتلین حسین حوض کوثر پر وارد ہوں گے تو اُن کو ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

امام شہیر، محدث کبیر محمد بن حسین آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

مئة الف الف لعنة على قاتل الحسين۔

{ کتاب الشریعة 2183/5 }

”قاتل حسین ﷺ پر لاکھوں لعنتیں ہوں۔“

شیخ الاسلام امام اہل حدیث حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل بیت سے محبت و عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ

﴿محببتهم عندنا فرض واجب يوجر عليه﴾ (فتاویٰ، 4/478)

اہل بیت سے محبت لازمی فرض ہے، جس پر اللہ کی طرف سے بہت اجر ملے گا۔
 سرخیل مسلک محدثین فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرض اور باعث اجر بھی
 ہے۔ اب بھی کوئی اہل حدیث یا محدثین کو اہل بیت کا مخالف سمجھے یا کہے تو یہ بہت بڑی
 تہمت ہے ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾
 شیخ الاسلام قاتلین حسین پر لعنت کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

﴿وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ أَعَانَ عَلَى قَتَلِهِ أَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ
 فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ
 صِرْفًا وَلَا عَدْلًا﴾

جس نے حسینؑ کو قتل کیا یا اس کے قتل پر مدد کی یا قتل پر راضی ہوا۔ ایسے
 (ذلیل) پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ (ایسے ظالموں) کی
 فرض و نقل کوئی عبادت قبول نہ کرے۔

جس طرح قاتلین حسین کو ہمارے اسلاف نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے ہم
 اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

النبراس شرح العقائد صفحہ 133 پر قاتلین حسین کا تذکرہ بایں الفاظ ہے:

وَأَتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَهُ أَوْ أَجَازَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ

اہل سنت و الجماعت نے بالاتفاق ہر اس شخص پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا
 ہے جس نے آپ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا یا آپ کے قتل کو جائز قرار دیا یا اس سے راضی ہوا۔

اور ملا علی قاریؒ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ موقف واضح کیا ہے کہ اجمالی
 طور پر قاتلین حسین پر لعنت کرنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ {شرح فقہ اکبر صفحہ 87}

حضرت ام سلمہؓ کی بددعا:

شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ہم ام المؤمنین سیدہ ام سلمہؓ کے پاس

تھے، میں نے ایک چیختے والی عورت کی آواز سنی اور وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اہم سلمہ نے فرمایا:

قَدْ فَعَلُوها مَلاَ اللّٰهُ بِيوتِهِمْ ناراَ وَوَقَعَتْ مَغْشِيًا عَلِيها وَوَقَعَتْ

{تاریخ دمشق، 229/14، تہذیب التہذیب 430/1 اس کی سند حسن ہے}

کیا انہوں نے ایسا کیا ہے.....؟ اللہ تعالیٰ اُن کے گھروں کو آگ سے بھر دے یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئیں اور ہم واپس آ گئے۔

قارئین کرام.....! ہمیں کسی عام با کردار شخص کے متعلق یہ خبر پہنچے کہ اُس کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو بے ساختہ ہماری زبان سے کلمہ بددعا یہ نکل جاتا ہے، وہ تو آخر نواسہ رسول اور اللہ کی زمین پر آپ کی نشانی تھے۔

اور اسی طرح عجب حیرت کی بات ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے مقبول سند کے ساتھ مروی ہے انہوں نے فرمایا: سَمِعْتُ الْعَجْنَ تَنوُحُ عَلٰى الْحُسَيْنِ جنوں کو حسینؑ کی شہادت پر روتے ہوئے سنا گیا۔ (معجم کبیر، 3/121، روایت: 2862، فضائل صحابہ امام احمد، 2/776، روایت: 3173 اس کی سند حسن ہے)

اسی طرح شارح حدیث اور امام ابوالحمزہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ حضرت فاطمہؓ کی فضیلت میں وارد حدیث کے تحت قاتلین حسین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ کے لئے اس سے بڑھ کر اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ ظالموں نے اُن کے لُحْتِ جگر کو شہید کر دیا، یقیناً وہ دنیا میں بھی بدتر انجام کو پہنچے ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ﴾ اور آخرت کا عذاب اُن کے لئے زیادہ سخت ہے۔

{تحفة الاحوذی، شرح جامع الترمذی، 10/251}

ترجمانِ مسلک اہل حدیث علامہ زبیر علی زئی اپنی محقق اور مخرج کتاب ”محبتِ ہی محبت“ صفحہ 108 پر قاتلین حسینؑ کے متعلق اپنا موقف واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آخر میں اُن لوگوں پر لعنت ہے جنہوں نے سیدنا و محبوبنا و امامنا الحسین بن علیؑ کو شہید کیا یا شہید کروایا یا اس کے لئے کسی قسم کی معاونت کی۔ اے اللہ! ہمارے دلوں کو سیدنا

الانام، المظلوم، الشہید حسین بن علیؑ، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبت سے بھر دے۔

گستاخ سیدنا حضرت حسینؑ کا انجام:

اہل حدیث کے نزدیک اللہ کے کسی نیک ولی اور سچے بزرگ سے بغض رکھنا اللہ سے جنگ لڑنے کے مترادف ہے۔ چہ جائیکہ کوئی شخص سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھرانے کے بارے میں توہین آمیز جذبات رکھے۔ بلکہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا یا ان کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا اور وہ جتنی آگ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ۔

{ مستدرک حاکم 150/3، اللؤلؤة الصحيحة 2488 }

”قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کوئی بھی ہم اہل

بیت سے بغض رکھے گا اللہ اُس کو ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔“

یہ تو آخری انجام ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا، بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ظالمین کی دنیا میں ہی پکڑ کر لیتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا حسینؑ کے سر مبارک کی توہین کرنے والا گستاخ کس طرح اپنے انجام کو پہنچا۔ جامع ترمذی میں صحیح سند سے روایت ہے، حضرت عمارہ بن عمیر بیان فرماتے ہیں:

﴿لَمَّا جِئْنَا بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِدَّتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحْبَةِ فَأَنْتَهَمَتْ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلُ الرَّءُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ ثُمَّ قَالُوا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا﴾ (جامع ترمذی، المناقب، تحفہ: 14/341 اس کی سند صحیح ہے)
ترجمہ: ”جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر مسجد میں لا کر رکھ دیئے گئے جو
رحبہ نامی مقام میں تھی تو میں وہاں گیا اور لوگ اچانک کہنے لگے وہ آیا وہ آیا اور وہ ایک
سانپ تھا جو لوگوں میں سے ہو کر آیا اور عبید اللہ بن زیاد کے نٹھوں میں تھوڑی دیر گھسا رہا پھر
نکلا اور چلا گیا اور غائب ہو گیا پھر لوگوں نے کہا کہ وہ آیا وہ آیا وہ پھر گھسا اور اس طرح تین
بار یادو بار کیا۔“

علامہ عبد الرحمن مبارکپوری اپنی مشہور سلفی الفکر تشریح تحفۃ الاحوذی میں اس
حدیث کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و فاسق کو حضرت حسینؑ
کی اہانت پر دنیا میں ہی سزا دی اور اُس کا کروہ انجام لوگوں کو دکھلایا۔
اس حدیث کی توضیح میں مفتی عبد الرحمن عابد، نائب مفتی شرعی عدالت جماعۃ
الدعوة پاکستان کے شاگرد محترم تفضیل احمد صاحب لکھتے ہیں کہ:

گویا وہ سانپ زبانِ حال سے کہہ رہا تھا کہ نواسہ رسول ﷺ کے قاتلو!
تمہارے چہروں پر لعنت بھیجتا ہوں، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی لوگوں کے
لئے تماشہ عبرت بن جاؤ، تمہارا نام بھی لوگ نفرت و حقارت سے لیں گے اور حسینؑ سے
غیر مسلم بھی یوں محبت کا اظہار کریں گے۔ (ہمیں حسینؑ سے محبت کیوں؟ صفحہ 90)

مشہور جلیل القدر معروف ثقہ تابعی حضرت ابو رجاء عطاردی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

لَا تَسْبُوا عَلَيْنَا وَلَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَإِنَّ جَارًا لَنَا مِنْ
بَلْهَجِيمٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ أَمَا تَرَوْنَ إِلَيَّ
هَذَا الْفَاسِقِ ابْنِ الْفَاسِقِ قَتَلَهُ اللَّهُ فَرَمَاهُ اللَّهُ بِكَوْكَبِينَ فِي عَيْنَيْهِ
فَذَهَبَ بَصْرُهُ

{معجم کبیر، 3/112، روایت: 2830، مجمع الزوائد: 199/9، تہذیب
التہذیب 1/430 منعی، حیاة الصحابة 466، اس کی سند صحیح ہے}

”علی اور اہل بیت میں کسی کو برا بھلا نہ کہو (بلہ جیم) کا ہمارا ایک پڑوسی ہمارے پاس کوفہ آیا اور اُس نے کہا کیا تم اس فاسق کے بیٹے فاسق کی طرف نہیں دیکھتے (یعنی حسینؑ) اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی دونوں آنکھوں میں دو ستارے پھینک دیے اور اُس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ یعنی یہ بد بخت دنیا میں ہی اندھا ہو گیا۔“

اور اسی طرح ربیع بن منذر ثوری اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں:

جَاءَ رَجُلٌ يُبَشِّرُ النَّاسَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فَرَأَيْتَهُ أَعْمَى يُقَادُ

{تہذیب التہذیب 1/429}

”ایک آدمی لوگوں کو قتل حسینؑ کی خوشخبری دینے کے لئے آیا بعد میں میں

نے دیکھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور لوگ اُس کو پکڑ کر چلاتے تھے۔“

بہر صورت اہل بیت کا احترام اور بانسوس محبت حسینؑ جزو ایمان ہے اور جہاں

ان کے بارے میں توہین آمیز مہمات لگائیں وہی ہے ان طرح اُن کی محبت میں غلو بھی قطعاً درست نہیں۔

میدانِ کربلاء میں عظیم کردار:

واقعہ کربلا کے حوالہ سے قصہ خواں حضرات لوگوں کو زلزلے اور اپنی جیب گرمانے کے لئے عجیب قسم کی موشگافیاں کرتے رہتے ہیں، ایسے افراد کی تقریریں یا تحریر پڑھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ کیمرہ لئے ہوئے میدانِ کربلا میں کھڑے تھے اور ایک ایک منظر کو محفوظ کر رہے تھے۔

امام الہند ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بھی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

{انسوس یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ کا اتنا مشہور اور عظیم تاثیر رکھنے والا واقعہ بھی تاریخ

سے کہیں زیادہ افسانہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ شہید اعظم اور اسوہ حسینؑ صفحہ 5}

بہر صورت واقعہ کربلا میں حضرت حسینؑ کا عظیم کردار کسی صورت بھی فراموش

نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نے قدم قدم پر ذات کبریا کو یاد رکھا اور اپنے اہل و عیال کو صبر کی تلقین

فرماتے رہے۔ جس طرح کہ آپ مندرجہ ذیل واقعات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں:

پہلا واقعہ:

سب سے پہلے سفر عراق میں جاتے ہوئے جب ”زرود“ مقام پر آپ پہنچے اور آپ ﷺ کو اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کے متعلق اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ نے اسے قتل کر دیا ہے، تو آپ نے جزع و فزع کا اظہار کیا؟ نہیں بلکہ آپ نے سنا تو بار بار یہی پڑھتے رہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہی قرآن کریم نے اہل صبر کی تعریف میں فرمایا ہے:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ (البقرة: 156-155)

”صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو یہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

دوسرا واقعہ:

جس وقت ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوجوں نے جو ہزار ہا کی تعداد میں تھیں، آپ ﷺ پر اور آپ کے رفقاء پر حملہ کیلئے اقدام کیا۔ اس وقت حضرت امام کے رفقاء کی تعداد کل 72 تھی اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس وقت بھی آپ نے صبر و توکل اور اعتماد علی اللہ کا کیسا ثبوت پیش کیا؟ اس وقت کی دعایہ تھی ”الہی ہر مصیبت میں تو ہی میرا بچاؤ ماؤی ہے۔ ہر تکلیف میں تجھی پر اعتماد و توکل ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں کہ تدبیر نے جواب دے دیا۔ دوست نے بے وفائی کی۔ دشمن نے خوشیاں منائیں۔ مگر میں نے تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دنگیری کی۔ آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے تو ہی احسان والا اور ہر نعمت کا مالک ہے۔“

{ قارئین کرام اندازہ فرمائیں کہ تنگی و خوف کے عالم میں بھی سیدنا حضرت حسینؑ کس طرح آیات قرآنیہ کی تفسیر بنے اور اپنے نانا کے عقیدہ و سیرت کو سینے سے

لگایا۔ اور الحمد للہ دعوتِ اہل حدیث بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں لوگو! عقیدت میں ڈوب کر عقیدہ خراب نہ کرو۔ اہل بیت سے محبت کرو اور ضرور کرو مگر دین کے دائرہ میں رہ کر۔ جس طرح حضرت حسینؑ نے غمی و خوشی میں ایک ہی اللہ کو پکارا اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اسی طرح ہمیشہ ایک ہی اللہ کو پکارو اور اسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو۔ مگر افسوس کہ آج ہم نے اسلام کے عظیم شہید کی شہادت کی یاد میں تمام اسلامی تعلیمات و اقدار کو فراموش کر دیا ہے۔ جو کہ سچے محبین کی شان کے سراسر خلاف ہے۔}

تیسرا واقعہ:

جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو حضرت امام اس سے چند منٹ پیشتر اپنے خیمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت زینبؑ کو فرماتے ہیں سب اہل بیت کو جمع کرو۔ سب حاضر ہوتے ہیں تو آپ ان سب کو مخاطب کر کے یہ وصیت فرماتے ہیں:

أَوْصِيكُمْ إِذَا أَنَا قَتِلْتُ فَلَا تَشُقُّ عَلَيَّ جَيْبًا وَلَا تَلَطُّنَّ

عَلَيَّ خَدًّا وَلَا تَخْدَشُنَّ عَلَيَّ وَجْهًا

”تمہیں وصیت کرتے ہوں کہ میں جس وقت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں تو میرے ماتم میں نہ گریبان چاک کرنا، نہ اپنے رخساروں پر طمانچے مارنا، نہ اپنے منہ کو زخمی کرنا۔“

{یقیناً سیدنا حسینؑ یہ جانتے تھے کہ اسلام نے بے صبری و ماتم کو قطعاً پسند نہیں فرمایا بلکہ سختی سے منع فرمایا اور آپ کو اپنے نانا محترم کا یہ فرمان اچھی طرح یاد تھا کہ

﴿لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخَدَّ وَشَقَّ الْجَيْبَ وَدَعَا

بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ﴾ صحیح بخاری

”جس نے رخساروں کو پیچا، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے وہ ہم

میں سے نہیں۔“

سلام ہو عظمتِ حسینؑ کو کہ آپ نے آخردم تک نانا کے فرمان کا پاس رکھا اور اپنے اہل بیت کو صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے عظیم نمونہ پیش کیا۔

چوتھا واقعہ:

جس وقت حضرت امام میدان کربلا میں قاسم بن حسن کی لاش کو اٹھا کر اپنے خیمہ کے سامنے لائے اور علی اکبر کی لاش کے پہلو میں لٹا دیا تو اہل بیت کے رونے کی آوازیں آپ کو سنائی دیں، آپ نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا:

صَبْرًا يَا أَهْلَ بَيْتِي، صَبْرًا يَا ابْنَ أُمَّوَيْتِي، لَا رَأَيْتُمْ هُوَ آتَا بَعْدَ ذَلِكَ
 اے اہل بیت صبر کرو، اے چچاؤں کی اولاد صبر کرو، اس کے بعد تمہیں کوئی
 ذلت اور تکلیف آنے والی نہیں۔

پانچواں واقعہ:

جس وقت امام حسن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے چچا امام حسین پر تلوار کے ارکورو کا توان کا داہنا ہاتھ شانہ سے کٹ کر جدا ہو گیا، تو حضرت امام نے اپنے خاندان کے اس نوجوان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور فرمایا:

إِصْبِرْ عَلَى مَا نَزَلَ بِكَ وَاحْتَسِبْ فِي ذَلِكَ الْخَيْرَ فَإِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى يَدْحِقُّكَ بِأَبَائِكَ الصَّالِحِينَ۔

”بھتیجے! جو مصیبت اس وقت تم پر آئی ہے، اس پر صبر کرو اور اس پر اللہ سے ثواب کے امیدوار رہو، اب بہت جلد اللہ تم کو تیرے صالح باپ دادوں سے ملا دے گا۔“

چھٹا واقعہ:

حضرت حسینؑ کا صاحبزادہ حضرت علی اصغر چھ ماہ کا بچہ جب شدتِ پیاس

سے تڑپنے لگا تو آپ اس کو گود میں اٹھا کر لائے اور دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ”تمہیں مجھ سے تو دشمنی ہو سکتی ہے لیکن اس معصوم بچہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے اس کو تو پانی دو کہ شدت پیاس سے دم تو زہا ہے“ اس کے جواب میں دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور اس بچہ کے حلق میں پیوست ہو گیا اور اس نے اسی جگہ جان دے دی، حضرت امام نے اس قدر ہوش ربا سانحہ پر کمال صبر و استقامت کے ساتھ کچھ کیا تو یہ کیا کہ اس کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا:

اللَّهُمَّ هُوَ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي إِنَّهُ لَا يَكُونُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلٍ

یا اللہ! جو مصیبت اس وقت مجھ پر نازل ہے اس کو تو آسان کر۔ مجھے امید ہے کہ اس معصوم بچے کا خون تیرے نزدیک حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کے قتل سے تو کم نہیں ہوگا۔

ساتواں واقعہ:

میدانِ کربلا کے سارے واقعات کو لکھنا اور ان میں حضرت امام کا اسوۂ حسنہ دیکھنا تو زیادہ تفصیل کا طالب ہے۔ اب آخر میں آپ خود حضرت امام کے واقعہ شہادت کو دیکھئے کہ جب آپ کا جسم زخموں سے سے چور ہو گیا اور آپ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ تو اس وقت بھی فاطمہؑ کی گود میں پرورش پانے والے، رسول اللہ کے کندھے پر سواری کرنے والے، نوجوانانِ جنت کے سردار حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہؐ کے منہ سے اگر کچھ کلمات نکلے تو یہی نکلے:

صَبْرًا عَلَيَّ قَضَائِكَ يَا رَبِّ لَا إِلَهَ سِوَاكَ

”تیرے فیصلہ پر میں صابر اور راضی ہوں۔ اے میرے رب! تیرے سوا میرا

کوئی معبود نہیں۔“ (ملاحظہ فرمائیں سب تاریخ، مقتل حسینؑ، اسوۂ حسنہؑ از داؤد غزنوی 28/31)

سانحہ کربلا اور سچے مسلمان کا کردار:

شہادت کی سعادت ہو یا موت کی حقیقت ہو ہر ایک شکل میں ورثاء و احباء کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ شہید یا فوت ہونے والے کے لیے بلندی درجات کی دعا کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یوم شہادت یا روزِ وفات کو مخصوص کرتے ہوئے اُس دن آہ و بکا اور ماتم کی محافل پیکرنا دین اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ کیونکہ دین کی تمام تعلیمات صبر و حلم اور رضا و تسلیم کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اصحابِ محمد یا آلِ محمد صلوات اللہ علیہم میں سے جو بھی شہید ہوا، یا فوت ہوا اس نے اپنے ورثاء کو بڑی سختی سے صبر اور دعائے خیر کی وصیت فرمائی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے یومِ عاشورہ کو ماتمی جلوس یا مجلسیں پیکرنا کی جاتی ہیں، اس ضمن میں ہم اپنے اسلاف کی ایک مختصر اور جامع عبارت یا ترجمہ نقل کرنا چاہتے ہیں جس سے اہل حدیث کا منہج اچھی طرح واضح ہو جائے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے:

فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْزِنَهُ قَتْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ
 مِنْ سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَأَبْنِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ
 الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِهِ وَقَدْ كَانَ عَابِدًا وَشُجَاعًا وَسَخِيًّا، وَلَكِنْ
 لَا يَحْسُنُ مَا يَفْعَلُهُ الشَّيْعَةُ مِنْ إِظْهَارِ الْجَزَعِ وَالْحُزْنِ الَّذِي لَعَلَّ
 أَكْثَرَهُ تَصْنَعُ رِيَاءً وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَفْضَلَ مِنْهُ فَقُتِلَ، وَهُمْ
 لَا يَتَّخِذُونَ مَقْتَلَهُ مَاتِمًا كَيَوْمِ مَقْتَلِ حُسَيْنٍ فَإِنَّ أَبَاهُ قُتِلَ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي السَّابِعِ عَشَرَ مِنْ
 رَمَضَانَ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ

عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْصُورٌ فِي دَارِهِ
 أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، وَقَدْ
 ذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، وَلَمْ يَتَّخِذِ النَّاسُ يَوْمَ مَقْتَلِهِ مَاتِمًا
 وَكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ قُتِلَ
 وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَمْ
 يَتَّخِذِ النَّاسُ يَوْمَ مَقْتَلِهِ مَاتِمًا وَكَذَلِكَ الصَّدِيقُ كَانَ أَفْضَلَ

مِنْهُ الخ (تعلیق صحیحہ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 71)

ترجمہ: ہر مسلمان کے لیے اتنی ہے کہ حضرت حسینؑ کا شہید ہونا، یا جا اس کے لیے باعثِ غم اور افسوس ہو، بلاشبہ وہ مسلمانوں کے سرداروں اور علماءِ صحابہ میں سے تھے اور آپ رسول اللہ ﷺ کے نواسے تھے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ عابد و زاہد، بہادر و نڈر اور سخی و فیاض تھے، لیکن شیعہ حضرات نے جزع و فزع اور غم کا اظہار کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے وہ اچھا نہیں، شاید کہ وہ دکھلاوے اور رریاء کی بنا پر کرتے ہیں، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت حسینؑ کے والد گرامی اُن سے افضل تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا، لیکن شیعہ حضرات اُن کی شہادت والے دن اُس انداز سے ماتم نہیں کرتے جس انداز سے حضرت حسینؑ کی شہادت والے دن کرتے ہیں اور اُن کو جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھانے جاتے ہوئے شہید کیا گیا تھا، اسی طرح اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ حضرت عثمانؓ سے افضل تھے، اُن کو 36 ہجری ماہ ذوالحجہ یا تم تشریق کے دنوں میں شہید کیا گیا اور اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ آپ کی شہہ رگ کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے اُن کی شہادت والے دن ماتم نہیں کیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطابؓ، عثمان و علیؓ سے افضل ہیں، اُن کو محراب میں نماز فجر کی قرأت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے اُن کی شہادت والے دن ماتم نہیں کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ

ان تمام سے افضل تھے، لیکن لوگوں نے اُن کی وفات کو یوم ماتم نہیں بنایا۔

غرض اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ جب حسینؑ کے اظہار کے لیے یوم عاشورہ کا ماتم قطعاً درست نہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت حسینؑ کی شہادت کے بعد آپ کے خانوادہ کے عظیم آئمہ نے بھی آپ کا ماتمی تہوار نہیں منایا۔ اسی لیے آج ہم بھی ایسی رسومات نہیں کرتے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صبر و شکر و زندگی عطا فرمائے۔ اور بڑے سے بڑے محبوب کی وفات یا شہادت کے بعد صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس امت مسلمہ کو اعتدال کی راہ پہ گامزن فرمادے۔ آمین ثم آمین

سیدنا حضرت حسینؑ کے متعلق اہل حدیث کا موقف:

ہم آپ کے متعلق نازیبا انداز اور توہین آمیز کلمات کو قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ کیونکہ آپ بلاشبہ حق پر تھے اور آپ شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں اور آپ جنتیوں کے سردار بھی ہیں، آپ سے محبت کرنے والا محبوب رسول ﷺ ہی نہیں محبوب خدا بھی ہے۔ اور الحمد للہ ہم نے یہ عقیدت و محبت ورثہ میں پائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سیدنا حسینؑ سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔

فاروق اعظم حضرت حسینؑ سے حضرت علیؑ جیسا سلوک کرتے:

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سیدنا حضرت حسینؑ سے فطرۃ محبت تھی، کیونکہ جن نفوس قدسیہ نے آپ کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا وہ آپ کے اہل خانہ اور شہزادوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی کیسے کر سکتے ہیں۔ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ:

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلْحُسَيْنِ مِثْلَ عَطَاءِ عَلِيٍّ، خَمْسَةَ آلَافٍ

{سیر اعلام النبلا: 285/3}

بلاشبہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؑ کی طرح حضرت حسینؑ کیلئے پانچ ہزار درہم مقرر فرمائے۔

حضرت عمرؓ بن خطابؓ نے دیکھا تو کہا:

ایک دفعہ سیدنا عمرؓ بن خطابؓ کعبہ شریف کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔

﴿رَأَى الْحُسَيْنَ فَقَالَ هَذَا أَحَبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَيَّ أَهْلِ

السَّمَاءِ الْيَوْمَ﴾

{تاریخ دمشق، صفحہ 14/181، سیر اعلام النبلا 3/ 285 اس کی سند حسن ہے}

ترجمہ: حضرت حسینؓ کو دیکھا تو فرمانے لگے اس وقت آسمان والوں کے ہاں یہ سب اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ حضرات صحابہ کرامؓ سیدنا حسینؓ کو کس قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور کس قدر محبت سے ان کی خدمت چاہتے بلکہ عقیدت رکھتے تھے اللہ ہمیں بھی اس عظیم شہداء اور اپنے نبیؐ کی خدمت، قدر اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین (سلام اللہ علیہ و علیٰ من یوقرہ)

عبداللہ بن عمرؓ بھی کہہ اٹھے:

ابن حریب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے:

إِذْ رَأَى الْحُسَيْنَ مُقْبِلًا فَقَالَ هَذَا أَحَبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَيَّ

أَهْلِ السَّمَاءِ الْيَوْمَ۔ (الاصابة 15/2)

اچانک حضرت حسینؓ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس وقت آسمان والوں کے ہاں یہ سب اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ نے کہا خوش آمدید:

رزین بن عبید کہتے ہیں میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس تھا تو آپ کے پاس

زین العابدین رحمہ اللہ کو لایا گیا تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:

مَرْحَبًا بِالْحَبِيبِ بْنِ الْحَبِيبِ {کتاب فضائل الصحابة}
 ”پیارے کے پیارے بیٹے خوش آمدید۔“

یاد رہے! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ کبار تابعین عظام اور صغار تابعین کرام و تبع تابعین کرام کے عقیدت و محبت بھرے اقوال کو ذکر کیا جائے تو شاید اس کے لیے ایک مستقل ضخیم کتاب معرض وجود میں آجائے۔ لیکن ہم بڑے اختصار سے یہ بات گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد آج تک تمام طبقات اہل سنت والجماعت نے حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو خراج عقیدت پر ایسے پھول نچھاور کئے ہیں کہ جن کی خوشبو سے تاریخ اسلام کے روشن اوراق معطر ہیں۔

مورخ شہیر علامہ ذہبی رحمہ اللہ آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

الإمام الشریف الكامل، سبط رسول الله ﷺ، ورعيحانته

مِنَ الدُّنْيَا {السيد: 280/3}

آپ صاحب عز و شرف و کمال امام، رسول اللہ ﷺ کے نواسے، دنیا میں آپ کے مہکتے پھول ہیں۔

اسی طرح آئمہ اہلحدیث میں سے جس نے بھی آپ کی سیرت کو اپنی کتاب کی زینت بنایا اُس نے آپ کی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دیئے۔ ہمارے مشفق شیخ اور محقق و مصنف مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں {حضرت علی اور حضرت حسین کے فضائل میں احادیث نقل کرنا اور اُن سے محبت کا اظہار کرنا اگر شیعیت ہے تو بجز ناصبیوں اور خارجیوں کے سب شیعہ ہیں}

(احادیث بخاری و مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش، صفحہ 34)

مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ساری زندگی مسلکِ حقہ کا پرچار کرتے رہے، فرماتے ہیں: ”حسین رضی اللہ عنہ سے محبت تو ہمارا عقیدہ ہے، اُن سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے۔ اہل حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی

عظمت کے قائل اور اُن کے خادم ہیں، مگر محبت کا طریقہ شرعی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخص منبر رسول ﷺ پر کھڑا ہو کر اور مصلیٰ رسول ﷺ پر نماز پڑھائے یہ بھی اگر حسنین کا گستاخ ہو گا وہ ایمان میں ناقص ہے اور وہ کفر کا کام کرتا ہے۔“

(خطبات حافظ عبداللہ شیخوپوری، موضوع فضائل حسنینؑ)

قارئین کرام! نصوص شرعیہ پر غور کیا جائے تو محبت حسنینؑ کا معاملہ حد درجہ

اہمیت طلب ہے۔

- (1) وہ صحابی رسول ہیں
- (2) وہ آل رسول ہیں
- (3) آپ ﷺ نے فرمایا: حسینؑ مجھ سے اور میں اُس سے ہوں۔
- (4) اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو جہنمی قرار دیا۔
- (5) حسنین کریمین سے محبت کرنے کا حکم دیا۔
- (6) اُن سے نفرت کرنے والے سے خود نفرت فرمائی۔
- (7) اُن کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا۔

ایسی برگزیدہ اور عظیم شخصیات کے متعلق آپ کے حکم اور تمام ارشادات کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اُن کی شان میں گستاخی کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے.....؟
ویسے بھی اہل اسلام کی محبوب نیک شخصیات کی گستاخی کوئی زندہ ضمیر مسلمان تو نہیں کر سکتا۔

آپ ﷺ عمل و کردار کے عظیم پیکر تھے!

یقیناً سرکارِ دو عالم ﷺ نے آپ کو جنت کی سرداری عطا فرمائی اور اگر آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً دل بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ ایسے باعمل اور باکردار متقی نوجوان کو یقیناً سردار ہی ہونا چاہیے۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں: كَانَ الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ كَثِيرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَأَفْعَالِ الْخَيْرِ جَمِيعًا۔ سیدنا حسینؑ بکثرت نماز روزہ، حج اور تمام نیکی کے اعمال کرنے والے تھے۔

امام ابن عبدالبرؒ بھی آپ ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حضرت حسینؑ صاحب علم و فضل، دین دار، بکثرت روزے رکھنے والے، نوافل کے شائق اور حج کے دلدادہ تھے۔“ (الاستیعاب: 173)

عظیم گھرانے کے عظیم فرزند ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری اور تواضع کے ایسے عظیم پیکر تھے کہ ایسی مثال کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسینؑ مساکین و غربا کے پاس سے گزرے، وہ اپنے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا: ﴿هَلُمُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ اے رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ہمارے پاس تشریف لاؤ۔ چنانچہ آپ فوراً اُن کے ساتھ بیٹھ گئے اور بغیر کسی عار اور جھجک کے بے تکلفی کے ساتھ غرباء کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھی:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

”یقیناً اللہ تعالیٰ اُکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

کھانا کھانے کے بعد آپ فرمانے لگے: ”کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم میری دعوت قبول کرو، چنانچہ غربا کو اپنے ساتھ ہی لیا اور گھر تشریف لے آئے اور تمام غرباء کی تجویروں اور جھولیوں کو غلے سے بھر دیا۔

{الامام الحسینؑ، صفحہ 96، بحار الانوار 44/189}

آج کل بڑے بڑے صاحب تقویٰ لوگ بھی غرباء و مساکین کی دعوت و مجلس سے گریز کرتے ہیں اور اُن کے ساتھ میل جول رکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، مگر سیدنا حسینؑ اپنے معصوم نانا کی طرح مساکین سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔

آپؑ نے مسلسل جس پاکیزہ گود میں پرورش پائی اور پروان چڑھے اُس کا آپؑ پر بڑا گہرا اثر تھا، خدا خونی اور تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دفعہ آپؑ کو کہا گیا کہ آپؑ پروردگارِ عالم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں: آپؑ نے فرمایا:

لَا يَأْمَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ خَافَ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا

قیامت کے دن وہی امن میں رہے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا۔

حضرات گرامی! قدر! حضرت حسینؑ تو وہ تھے کہ جنہوں نے کربلاء کے ٹیلوں پہ نماز کو نہ چھوڑا مگر ہم نے مسجد کے قالینوں پر نماز کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے نیزے کی دھار پر بھی قرآن کی تلاوت کی مگر ہم نے کلامِ الہی کو الماریوں میں بند کر دیا۔ اس قدر عملی تضاد کے باوجود کیا..... ہمیں حُبِ حسینؑ کا دعویٰ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی.....؟؟؟

بلاشبہ حضرت حسینؑ صبر و تحمل اور بردباری کے عظیم پیکر تھے۔ ایک دفعہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے تو آپ نے یہ سن کر اس قدر عظیم کردار ادا کیا جو قیامت تک کے صلحاء کیلئے بہترین نمونہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ:

بَلَّغَهُ عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ يَكْرَهُهُ فَأَخَذَ طَبَقًا مَمْلُوءًا مِنَ التَّمْرِ وَحَمَلَهُ بِنَفْسِهِ إِلَى دَارِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَنَظَرَ إِلَى الْحُسَيْنِ وَمَعَهُ الطَّبَقُ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ لَهُ خُذْهُ فَإِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكَ أَهْدَيْتَ إِلَيَّ حَسَنَاتِكَ فَقَابَلْتُكَ بِهَذَا۔

{عبر الاقوال وانفعال فی زمن الالهوال 206}

آپ کو ایک شخص کے متعلق خبر پہنچی کہ وہ آپ کے بارہ میں ناپسندیدہ کلام کرتا ہے، چنانچہ آپ نے کھجوروں کا بھرا ہوا طشت اٹھایا اور خود لے کر اُس آدی کے گھر پہنچ گئے، جب اُس نے حضرت حسینؑ کی طرف دیکھا کہ وہ طشت اٹھائے آرہے ہیں تو اُس نے کہا رسول اللہ ﷺ کے بیٹے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ تم لے لو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اپنی نیکیوں کا مجھے تحفہ بھیجا ہے تو میں اُس کے بدلے تمہیں دے رہا ہوں۔

آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریباً سات سال:

سیدنا حضرت حسنؑ کی طرح سیدنا حسینؑ کو بھی گودِ رسالت میں کھیلنے، کودنے اور صدرِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکنے کا موقع ملا۔ آپ جب بھی حضرت حسینؑ کو دیکھتے تو آپ انہیں اٹھالیتے، چومتے، سونگھتے اور گلے لگاتے۔ اور یہ سعادت کبریٰ تقریباً

سات سال تک آپ کو حاصل رہی۔ سبحان اللہ

﴿ كَانَ الْحُسَيْنُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طِفْلاً وَأَقَامَ
مَعَهُ سِتَّ سِنِينَ وَسَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِي يَوْمِ الْأَثْنِينَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ

سنة 11هـ ﴿

{غصن الرسولہ الحسن بن علی (29)}

ترجمہ: حضرت حسینؑ آنحضرت ﷺ کی زندگی میں بچے تھے اور آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ 6 سال 7 ماہ اور سات دن رہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ بوقت چاشت بروز پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

﴿ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَلَمْ يَكْمُلِ الْحُسَيْنُ

سَبْعَ سِنِينَ ﴾ {منہاج السنۃ النبویۃ}

ابھی حضرت حسینؑ کی عمر مکمل سات سال نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ فوت ہو گئے۔ کل عمر کتنی تھی! حضرت حسینؑ کی کل عمر تقریباً 58 سال تھی اور آپ نے اپنی زندگی کی اٹھاون بہاریں دیکھیں جن کی تفصیل قدرے یوں ہے۔

﴿ كَانَ عَمْرُ الْحُسَيْنِ حِينَ انْتَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى

الرَفِيقِ الْأَعْلَى سَبْعَ سِنِينَ لِأَنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَوَفَاةُ

النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ الْحَادِيَةِ عَشْرَةٍ وَأَقَامَ مَعَ أَبِيهِ بَعْدَ جَدِّهِ

ثَلَاثِينَ سَنَةً إِذْ كَانَتْ وَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَقَامَ

مَعَ أَخِيهِ الْحَسَنِ بَعْدَ أَبِيهَا عَشْرَ سِنِينَ وَعَاشَ بَعْدَ أَخِيهِ

إحدى عشرة فتلك مدة حياته 58 سنة ﴿﴾۔

{ فتح الباری 8/95 / غصن الرسول ص 25 }

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے وقت حضرت حسین کی عمر تقریباً سات سال تھی کیونکہ آپ ﷺ 4 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی وفات سن 11 ہجری کے آغاز میں ہوئی۔ آپ ﷺ کے بعد اپنے والد گرامی حضرت علیؑ کے ساتھ آپ ﷺ (تقریباً) 30 سال رہے اور حضرت علیؑ کی وفات سن 40 ہجری کو ہوئی، رسول اللہ ﷺ اور حضرت علیؑ کے بعد 10 سال حضرت حسن کے ساتھ رہے اور حضرت حسنؑ کی وفات کے بعد (تقریباً) 11 سال اور زندہ رہے۔ اس طرح یہ کل مدت حیات (آپ کی زندگی و عمر) تقریباً 58 سال ہے۔

فرزندانِ حضرت حسینؑ:

حضرت حسینؑ نے مختلف اوقات میں پانچ شادیاں کیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین بیٹے عطا فرمائے۔ علی اکبر اور علی اصغر آپ کے ساتھ ہی کربلا میں شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے۔ البتہ علی اوسط جو کہ علی زین العابدین کے نام سے مشہور و معروف ہیں ان کی نسل کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

مشہور الامجدیٹ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اسم مبارک علی ہے، عبادت کی وجہ سے زین العابدین، سجاد لقب پڑ گئے، کربلا میں عمر مبارک 23 سال کی تھی، 38 ہجری میں پیدا ہوئے، 95 ہجری میں وفات پائی۔

{ رحمة للعالمین، 2/121 }

نیز آپ کی تین صاحبزادیاں تھیں جن میں سے فاطمہ بنت حسین اور سکینہ بنت حسین زیادہ مشہور ہیں۔

شہادت:

نواسر رسول سیدنا حضرت حسینؑ نے ملک عراق کے مقام کربلا پر 61 ہجری میں شہادت پائی اور آپؑ کو سرزمین کربلا میں ہی دفن کیا گیا۔
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

وَقُتِلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ بِكَرْبَلَاءَ مِنْ

أَرْضِ الْعِرَاقِ (فتہ الباری، 7/121)

أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِشَهَدَائِهِ كَرْبَلَاءَ وَارْحَمْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ



سادتِنا حسنین رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

نام حسنین رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا انتخاب سیدِ الثقلین:

سیدنا حسنین کریمین سے مراد حضرت حسن و حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ہیں بسا اوقات اہل علم دونوں شہزادوں کا اکٹھا ذکر کرتے ہوئے حسنین یا حسان تحریر فرماتے ہیں اہل لغت لکھتے ہیں کہ ”الْحَسَنَانِ“ اس سے مراد سیدنا حضرت امام حسن و سیدنا امام حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ہیں۔

{المنجد عربی، اردو مادہ حسن صفحہ 209}

اور اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ دونوں پیارے نام سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا حسن انتخاب ہیں۔ آنے والی سطور میں ہم ایسی روایات تحریر کریں گے جن میں دونوں پھولوں، کلیوں اور موتیوں کا ذکر خیر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ان کی توقیر، عزت اور احترام کرنے کی ہمت، توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے آمین ثم آمین۔

شہزادوں کی ولادت:

سیدنا حضرت حسن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سیدنا حضرت حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے تقریباً 1 سال بڑے تھے۔ سیدنا حضرت حسن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 3 ہجری کو رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور سیدنا حضرت حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 4 ہجری کو شعبان المعظم میں پیدا ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

﴿كَانَ مَوْلِدُ الْحُسَيْنِ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ

عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَكَانَ مَوْلِدُ الْحُسَيْنِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ فِي

قَوْلِ الْأَكْثَرِ﴾

سیدنا حضرت حسنؑ کی ولادت اکثر مورخین کے نزدیک ماہ رمضان 3 ہجری میں ہوئی اور سیدنا حضرت حسینؑ کی ولادت اکثر مورخین کے مطابق ماہ شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔

امام ذہبی رحمہ اللہ نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ:

{ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ طَهْرٌ وَاحِدٌ } { سید اعلام النبلاء }

حسن اور حسین کے درمیان ایک طہر کا فرق تھا۔

امام ابن حجرؒ کی تحقیق کے مطابق بھی دونوں کی ولادت میں سال کا فرق ہے۔ حضرت حسنؑ تین ہجری ماہ رمضان اور حضرت حسینؑ چار ہجری ماہ شعبان میں پیدا ہوئے۔ (فتح الباری: 7/121)

معروف سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سبط النبیؐ نصف رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام حسن کے برادر خورد امام حسین علیہ السلام سبط الرسولؐ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ {رحمۃ اللعالمین، 2/ 113، 118}

عصرِ قریب کے عظیم قلم نگار علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت امام حسنؑ کی ولادت 3 ہجری رمضان کی پندرھویں تاریخ کو ہوئی اور 4 ہجری ماہ شعبان میں حضرت حسینؑ کی ولادت ہوئی۔ {سیرت النبیؐ حصہ اول 241، 245}

{ سن عیسوی کے مطابق سیدنا حضرت حسنؑ 625 م کو پیدا ہوئے اور 669 م کو شہادت پائی اور سیدنا حضرت حسینؑ 626 م کو پیدا ہوئے اور 680ء میں وفات پائی }

عقیدہ حسنین رضی اللہ عنہما:

دین اسلام میں عقیدہ کا تصور یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو دو مینڈھے اور اگر رب تعالیٰ بیٹی عطا فرمائیں تو ایک مینڈھا، ساتویں دن اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت اعضاء و اقرباء و زملاء و اصداق اور مساکین و فقراء میں تقسیم کیا جائے۔

شارح حدیث امام ابن حجر فرماتے ہیں:

”هُوَ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ عَنِ الْمُؤَلُّودِ“ {فتح الباری صفحہ 9/3}

اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہوئے آفات و حوادث اور کئی آزمائشوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ عقیقہ کو اہمیت نہ دینا یا اسے مکروہ کہنا سنت مبارکہ کے سراسر خلاف ہے۔

یہاں ہم صرف حسین کریمینؑ کے عقیقہ کا ذکر کریں گے سیدنا حضرت عبداللہ

بن عباسؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ

﴿عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنٍ﴾

{نسائی، 2: 180، السنن الکبریٰ، 9/299 مسند ابی یعلیٰ 4/301}

رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسینؑ کی طرف سے عقیقہ کیا اور دودھ دینڈھے

ذبح کئے۔

اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنٍ

{السنن مع العون 3/66}

رسول اللہ ﷺ نے حسین کریمین کی طرف سے ایک ایک دینڈھے کا عقیقہ کیا

اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک ایک دینڈھے کے قائل ہیں لیکن یہ درست

اور راجح نہیں بچے کی طرف سے دوا اور بچی کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا چاہیے۔

صاحب عون المعبود لکھتے ہیں:

﴿اسْتَدْلَّ بِهِ مَالِكٌ عَلَى أَنَّهُ يَعْقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

وَاحِدَةً قَالَ الْحَافِظُ لِحَاجَةٍ فِيهِ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ وَجْهِ

آخِر عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ كَبْشَيْنٍ﴾

{عون المعبود باب العقیقہ جلد 3 صفحہ 66}

اور مزید حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ

وَوَقَعَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ ”عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ“
اور کئی احادیث میں وارد ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے
ایک جانور ذبح کیا جائے گا۔

{فتح الباری کتاب العقیقة 3/9}

یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ کا حضرات حسنین کریمینؑ کی
طرف سے عقیقہ کرنا، یہ آپ کے خصوصی لگاؤ، پیار اور تعلق کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم
سب کو اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

یہ تو میرے اہل بیت ہیں:

قارئین کرام! موقع کی مناسب سے ضروری ہے کہ اہل بیت کے متعلق چند اہم
باتیں تحریر کر دی جائیں تاکہ اہل بیت کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو جائے تو اہل بیت مرکب
اضافی ہے اور اس کا معنی ہے ”گھر والے“
رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت 3 قسم کے ہیں:

1: اہل بیت سکنی، اس سے مراد وہ ہیں جو گھر کی چار دیواری میں رسول اللہ ﷺ
کے ساتھ رہتے تھے، یعنی ازواج مطہرات (آپ کی بیویاں) سلامُ اللہ
علیہنَّ اور اگر آپ ہائیسواں (22) پارہ سورہ احزاب آیت 28 تا 34 بغور
پڑھیں تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آئیگی کہ یہاں اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج
مطہرات ہیں۔

2: اہل بیت نسب، یعنی وہ افراد و اشخاص جو باعتبار نسب آپ کے اہل بیت میں شمار
ہوتے ہیں اور اس سے مراد تمام بنو ہاشم ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔

3: اہل بیت ولادت، یعنی آپ کے بچے، بچیاں، نواسے، نوایاں اور یہ سلسلہ آج
تک جاری ہے۔

اس کے علاوہ اگر کسی کو آپ ﷺ نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا تو یہ خاص
الگ اعزاز ہے بعض نادان لاعلمی کے پیش نظر یہاں تک کہتے اور بیان کرتے ہیں کہ حسنین

اور علی المرتضیٰؑ کو رسول اللہ ﷺ نے اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا ہے وہ
 حقیقۃً اہل بیت میں سے نہیں۔ حالانکہ یہ کہنا حد درجہ جہالت و سفاہت ہے۔
 اور یاد رہے اہل بیت سے محبت جزو ایمان ہے اور ان کی محبت میں غلو یہ بتا ہی ایمان ہے اللہ
 تعالیٰ ہمیں افراط و تفریط کی بجائے راہ اعتدال نصیب فرمائے آمین ثم آمین۔
 صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ بنت عبد اللہؓ ارشاد فرماتی ہیں۔

﴿ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ
 مَرَحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ
 الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةٌ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ
 فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ ”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ ﴿

{ مسلم، فضائل الصحابة، مناقب الحسنین 2/283 }

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ صبح کے وقت نکلے اور آپ ﷺ پر کالی چادر تھی۔ جس پر
 کجاووں کی تصویریں تھیں۔ پس حسن ابن علیؑ آیا آپ ﷺ نے اسے چادر
 میں داخل کر لیا پھر حسینؑ آئے اور ساتھ داخل ہو گئے پھر فاطمہ و علیؑ
 آئے آپ ﷺ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرمایا۔ پھر آپ نے کہا ”
 بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں
 خوب پاک کر دے۔“

اور مسلم شریف میں دوسری جگہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے

فرماتے کہ:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَدُّوا أَبْنَاءَنَا كَمَا نَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ ”اللَّهُمَّ هُوَلَاءَ أَهْلُ بَيْتِي

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلااتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو رسول اللہ ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن، حسین، (رضی اللہ عنہم) کو بلایا اور کہا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔

جامع ترمذی شریف میں ہے حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" فَبَدَأَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلَى خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا" قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "أَنْتِ عَلَى مَكَائِكَ وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ"﴾

{سنن الترمذی المناقب، 4/208 حدیث 4058}

جب یہ آیت (انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا) نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ ﷺ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ ﷺ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو ایک چادر اوڑھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھے تو ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے پلیدی دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی پر ہے۔"

مندرجہ بالا حدیث کساء جہاں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہراء اور سیدنا حسین کریمین رضی اللہ عنہم کی خصوصی عظمت اور شان واضح ہوئی۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی بالاولی اہل بیت میں ہے۔

قارئین کرام! ہم تو عام نمبر دار یا چوہدری خاندان کی فہمی کا بڑا ادب کرتے ہیں اور چوہدری صاحب کی طرف نسبت و قرابت ہونے کی وجہ سے ان کا خصوصی خیال رکھتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔

کیا پیغمبرِ رحمت ﷺ کا گھرانہ ہمارے احترام کا حقدار نہیں؟ کیا ہمارے جذبات، احساسات اور خیالات میں ان کی عقیدت کی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے؟ یقیناً ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان سے محبت رکھیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی چاہت نصیب فرمائے آمین ثم آمین

حسین کریمین رضی اللہ عنہما پشتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

﴿قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَاذَا سَجَدَ وَكَبَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيَّ ظَهْرَهُ فَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخَذًا رَقِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَي الْأَرْضِ فَاذَا عَادَ عَادَا حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدَهُمَا عَلَيَّ فَيَخِذِيهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِدُهُمَا فَبَرَقَتْ (ای برقت السماء برقة فاضاءت المسجد والطريق حتى لا يخاف الحسان) برقة فقال لهما "الْحَقْنَا بِأُمَّكُمَا" قَالَ فَمَكَثَ ضَوْءُهَا حَتَّى دَخَلَا﴾

{مسند امام احمد 9/530 حدیث 10607 اس کی سند صحیح ہے۔}

ترجمہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نمازِ عشاء پڑھ رہے تھے کہ اچانک حسین آ کر آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ پیغمبرِ رحمت جب سر مبارک اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے پکڑ لیتے اور زمین پر رکھ دیتے۔ پھر جب آپ ﷺ سجدہ کرتے وہ سوار ہو جاتے یہاں تک کہ آپ نے نمازِ مکمل کی اور ان دونوں کو اپنی ران مبارک پر بٹھایا۔ حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میں انہیں گھر چھوڑ آتا ہوں اتنے میں اچانک تیز بجلی جیسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ پھر اس وقت تک روشنی رہی کہ وہ گھر میں داخل ہو گئے۔

شیخ الاسلام علامہ امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو بالفاظ دیگر یوں نقل فرمایا ہے کہ

﴿كَانَ يُصَلِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ وَيَقْعُدَانِ عَلَي ظَهْرِهِ فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يَمِيْطُوْنَهُمَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ذَرُوْهُمَا - بِأَبِي وَأُمِّي - مَنْ أَحْبَبَنِي فَلْيُحِبِّ هَذَيْنِ﴾

{السلسلة الصحيحة جلد 7 جز 3 حدیث 4002 صفحہ 1732}

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کھلیتے کودتے اور آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے دونوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا ان کو چھوڑ دو (میرے ماں باپ قربان جائیں) جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے ضرور محبت رکھے۔

اہل دل! اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں بھی ان کا خیال رکھا، نرمی سے پکڑا، اٹھایا، بٹھایا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ کو ڈانٹا نہیں کہ تو ان کو نماز کے وقت میرے پاس کیوں بھیجتی ہے بلکہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے حسین کو ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا ان کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اور فرمایا کہ میں تمہارے لئے اور بعد آنے والے سب مسلمانوں کیلئے یہ اعلان عام کر رہا ہوں کہ جس کو مجھ سے محبت ہے، چاہت ہے، عقیدت ہے، وہ ان دونوں شہزادوں سے ضرور ضرور پیار کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اللہ ہمیں حکم رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

شہزادے کبھی گرتے، کبھی اٹھتے:

سیدہ فاطمہؑ نے بچپن ہی سے اپنے شہزادوں کی نیک تربیت فرمائی جو نبی شہزادے چلنے کے قابل ہوئے تو ان کا رخ مسجد نبوی کی طرف کر دیا۔ آپ علیہا السلام اکثر اپنے پیاروں کو نہلا پہنا کر نانا کی مسجد کی طرف روانہ کر دیتیں اور بسا اوقات کم سنی کی وجہ سے جنتی شہزادے ٹہلتے ٹہلتے گر جاتے

سیدنا حضرت ابی بربہؓ فرماتے ہیں کہ

﴿عَنْ أَبِي بَرِيدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ

يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

”صَدَقَ اللَّهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ نَظَرْتُ إِلَى

هَذَيْنِ الصَّبِيِّينِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ

حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا“ {ترمذی 4/203 کتاب المناقب وأيضاً النسائی فی

الجمعة وابن ماجه فی اللباس وابوداؤد فی الصلوة وابن ابی شیبہ فی المصنّف }

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حسنؑ اور حسینؑ

آگئے ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں وہ چلتے ہوئے

گر پڑتے تھے، رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے اترے ان دونوں کو اٹھایا اور

اپنے سامنے بٹھا دیا، پھر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ

ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ

میں نے خطبہ روک کر انہیں اٹھایا۔“

جس پیغمبر نے ان شہزادوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر اپنا منبر چھوڑ دیا اور ان کو خود

اٹھایا اور اپنے پاس لے آئے تو جس ہستی سے ان کا گرنابر داشت نہ ہو اوہ ان کا کٹنا کیسے

برداشت کر سکتے ہیں؟

اور اسی طرح حضرت یعلیٰ بن مرہؓ فرماتے ہیں:

﴿جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يُسْعِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَجَاءَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، فَجَعَلَ يَدُهُ فِي رِقْبَتِهِ ثُمَّ ضَمَّهُ إِلَى
إِبطِهِ ثُمَّ قَبَلَ هَذَا ثُمَّ قَبَلَ هَذَا وَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا ثُمَّ
قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخُلَةٌ مَجْبُونَةٌ مَجْهُولَةٌ﴾

{مسند احمد، 4/172 مستدرک حاکم: 3/164 سہرا اعلام النبلاء 3/254 اسنادہ حسن بالشواہد}
حسن و حسینؑ رسول اللہ ﷺ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اُن میں
سے ایک دوسرے سے پہلے آیا، پس آپ نے اپنا ہاتھ اُس کی گردن پہ رکھا اور اپنی بغل کے
ساتھ ملا لیا، پھر اُس کا بوسہ لیا اور دوسرے کا بوسہ لیا اور فرمایا میں اُن دونوں سے محبت کرتا
ہوں پس تو بھی اُن دونوں سے محبت کر پھر آپ نے فرمایا: اے لوگو! اولاد بہت زیادہ بخیل،
بزدل اور جذباتی بنا دینے والی ہے۔

ایک آگے اور ایک پیچھے:

سرورِ دو عالم ﷺ بسا اوقات شہزادوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھالیتے اور وہ
کیسا حسین نظارہ اور دل ربا منظر ہو گا جب سیدنا حسینؑ کریمینؑ رسول اللہ ﷺ
کیساتھ ایک سواری پر سوار ہوں گے۔ سبحان اللہ
صحابی رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ

﴿لَقَدْ قَدَّتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ﷺ بِغَلْتَةِ الشَّهْبَاءِ
حَتَّى ادْخَلْتَهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا قَدًّا مَهُ وَهَذَا خَلْفَهُ﴾

{مسلم، فضائل الصحابہ 2/283}

ترجمہ: میں نے اس سفید خچر کو چلایا جس پر رسول اللہ ﷺ اور امام حسن اور امام حسین

سوار تھے یہاں تک کہ ان کو لے گیا حجرہ نبوی تک، ایک صاحبزادے آپ کے آگے تھے اور ایک پیچھے۔

یہ حدیث مبارک بھی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دونوں شہزادوں سے حد درجہ محبت تھی کیونکہ آدی اپنے اسی بچے کو اپنے ساتھ سوار کرتا ہے جس سے گہری محبت ہو اور اس سے پیار کرتا ہو۔

شارح حدیث امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

﴿فِيهِ دَلِيلٌ لِّجَوَازِ رُكُوبِ ثَلَاثَةِ عَلَيٍّ إِذَا كَانَتْ

مُطِيقَةً﴾ {شرح نووی 2/283}

اس حدیث میں دلیل ہے کہ ایک چوپائے پر تین آدی سوار ہو سکتے ہیں جب وہ چار پایہ اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہو۔

قارئین کرام! کبھی یہ شہزادے رسول اللہ ﷺ کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے اور آپ ان کو لے کر باہر نکلتے۔

خليفة المومنين سيدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

﴿رَأَيْتُ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيَّ عَاتِقِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَعَمَ الْفَرَسُ تَحْتَكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَعَمَ الْفَارِسَانِ﴾ {مجمع الزوائد 9/185}

ترجمہ: میں نے حسن و حسین کو دیکھا وہ نبی کریم ﷺ کے کندھوں پر سوار تھے۔ میں نے کہا تمہارے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اگر سواری اچھی ہے تو) سوار ہونے والے (دونوں پھول) بھی اچھے ہیں۔

حضرات! جن پیاروں کو رسول اللہ ﷺ بھی اچھا کہیں ان جیسا اور اچھا کون

ہو سکتا ہے.....؟؟

اس چادر کی اوڑھ میں کیا ہے؟

رسول اکرم ﷺ ہر طرح ان شہزادوں کا خیال رکھتے تھے روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے ان کی نگرانی کرتے اور ان کو اپنے پاس اور ساتھ رکھتے سیدنا حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ

﴿طَرَقَتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَيَّ لَا أُدْرِى مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيَّ فَكَشَفَهُ فَأَذَانُ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ عَلَيَّ وَرَكِبَهُ فَقَالَ "هَذَا ابْنَايَ وَأَبْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا﴾

{ترمذی 4/201,200}

ترجمہ: میں ایک رات کسی حاجت کے لئے حضرت نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نبی کریم ﷺ باہر تشریف لائے تو آپ ﷺ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے، جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو عرض کیا اس چادر میں کیا ہے؟ آپ ﷺ نے چادر اٹھائی تو آپ دونوں کو لہوں (میں سے ایک پر) حضرت حسنؓ اور (دوسرے کو لہے پر) حضرت حسینؓ تھے اور آپ نے فرمایا:

یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ سبحان اللہ

اس حدیث صحیح سے واضح ہوا کہ سیدنا حسنؓ یا حسینؓ کے بارے میں تو ہیں آ میر یا گستاخانہ انداز رکھے والا، جذبات رکھنے والا کبھی محبوب خدا نہیں بن سکتا بلکہ محبوب

خدا بننے اور تکمیل ایمان کے لئے اہل بیت اور حسین کریمین سے محبت رکھنا فرض ہے۔

ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ أَحَبَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ

أَبْغَضَنِي﴾ (صحیح سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 29 حدیث 117)

جس نے حسینؑ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے

بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کریمین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین)

حسینؑ تو دنیا میں میرے پھول ہیں:

میرے پیارے نبی ﷺ حسن و حسینؑ کے بارے میں کتنے نرم اور شیریں جذبات رکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں آپ نے ان شبنم کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے اور بالکل اسی طرح ان کو سونگھا اور پوما کرتے تھے۔ جس طرح نئی یا پھول کو سونگھا جاتا ہے۔ پھر جس طرح پھول کلی کو سونگھ کر آدنی راحت و مسکن محسوس کرتا ہے، رسول کریم ﷺ اسی طرح ان پیاروں کو سونگھ اور چوم کر راحت و فرحت اور قلبی سکون محسوس فرماتے۔

ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

﴿سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرَمِ۔ قَالَ شَعْبَةٌ

أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الدُّبَابَ فَقَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الدُّبَابِ!

وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

”هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا“﴾

{بخاری، فضائل اصحاب النبی، مناقب الحسنین 186/5}

ترجمہ: میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سنا اور کسی نے ان سے محرم کے بارے

میں پوچھا تھا، شعبہ کہتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے کبھی کے متعلق پوچھا تھا اگر اسے محرم مار دے (تو کیا کفارہ وغیرہ ہوگا) تو آپ ﷺ نے فرمایا، عراق کے لوگ کبھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور حالانکہ یہی لوگ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر چکے ہیں۔ جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں (حسن و حسین) دنیا میں میرے پھول ہیں اور جامع ترمذی شریف کے الفاظ میں حضرت عبدالرحمن بن ابی نعم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

﴿أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: عَنْ دِمِ الْبَعُوضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْظِرْ إِلَيَّ هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دِمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا"﴾

(الترمذی 202/4، السلسلة الصحيحة 102/2 حدیث 564)

ترجمہ: عراقیوں سے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سوال کیا کہ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ اس شخص کی طرف دیکھو، مچھر کے خون کے بارہ میں سوال کرتا ہے حالانکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بیٹے کو شہید کیا اور بے شک میں نے آپ ﷺ کو فرماتے سنا کہ حسن و حسینؓ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے سیدنا ابو بکرہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ

﴿رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ﷺ يَثْبَانِ عَلَيَّ ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَيُمَسِّكُهُمَا بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَقَرَّ عَلَيَّ﴾

الْأَرْضَ تَرَكَهُمَا فَلَمَّا صَلَّى أَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ ثُمَّ مَسَحَ
رُؤْسَهُمَا ثُمَّ قَالَ "إِنَّ ابْنِي هَذَيْنِ رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا" ﴿

{کتاب الشریفة 2156/5 و مسند احمد والمعجم الكبير}

ترجمہ: میں نے حسینؑ کو دیکھا کہ وہ آپ ﷺ کی پشت مبارک پر اُٹھل کود رہے ہیں اور آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے آپ ﷺ ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے جب آپ زمین پر بیٹھ جاتے آپ انہیں چھوڑ دیتے جب آپ نے نماز پڑھ لی تو دونوں کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور سر پر (پیار) سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے دنیا کے پھول ہیں۔

محمدؐ شہیر امام نورالدین علی بن ابی بکر رحمہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا سعد

بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں:

﴿دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ يُلْعَبَانِ

عَلَى بَطْنِهِ فَقُلْتُ أَتَجِبُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ وَمَالِي لِأَحِبَّهُمَا

وَهُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشْمُهُمَا" {مجمع الزوائد 184/9}

ترجمہ: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو حضرت حسینؑ آپ کے پیٹ پر کھیل

رہے تھے میں نے کہا آپ ﷺ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے

فرمایا کیسے محبت نہ کروں یہ میرے دنیا کے پھول ہیں میں ان کو سوگھتا

ہوں۔ سبحان اللہ

اللہ ہمیں بھی ان کو محبت بھرے انداز میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ہمارے پیارے پیغمبر ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں ان شہزادوں کا ذکر

سن کر لہلہانے اور مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

شہزادوں کو روتے دیکھا تو آپ ﷺ بے قرار ہو گئے:

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں سخت بیمار ہوئے تو آپ کے پاس مروان بن الحکم الاموی آیا۔

﴿فَقَالَ مَرَوَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي شَيْئٍ
 مِنْذُ اصْطَحَبْنَا الْأَقْيَ حُبَّكَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَالَ فَتَحَفَّزَ
 أَبُو هُرَيْرَةَ فَجَلَسَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى
 إِذَا كُنَّا بِيَعْضِ الطَّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ
 وَالْحُسَيْنَ وَهُمَا يَبْكِيَانِ وَهُمَا مَعِ أُمَّهُمَا فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى
 أَتَاهُمَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا شَأْنُ ابْنَيْ فَقَالَتِ الْعَطَشُ قَالَ فَأَخْلَفَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَنْةٍ يَبْتَغِي فِيهَا مَاءً أَوْ كَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذٍ
 إِعْدَارًا وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ فَنَادَى هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَهُ مَاءٌ فَلَمْ
 يَبْقُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَى كَلَامِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنْةٍ فَلَمْ
 يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوِلِينِي
 أَحَدُهُمَا فَنَاوَلْتَهُ إِيَّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخُدْرِ فَرَأَيْتُ بِيَاضَ ذِرَاعَيْهِمَا
 حِينَ نَاوَلْتَهُ فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَضُغُو مَا يَسْكُتُ
 فَأَدْلَمَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 بُكَاءٌ وَالْآخِرُ يَبْكِي كَمَا هُوَ مَا يَسْكُتُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلِينِي الْآخِرَ
 فَنَاوَلْتَهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ فَسَكَّتَا فَلَمْ أَسْمَعْ لِهَمَا صَوْتًا ثُمَّ
 قَالَ سِيرُوا فَصَدَعْنَا يَمِينًا وَشِمَالًا عَنِ الظَّعَانِ حَتَّى لَقِينَاهُ

علی قارعة الطريق فانا لا أحب هذين؟ وقد رايتُ هذا من

رسول اللہ ﷺ۔ {مجمع الزوائد 9/ 183 تہذیب التہذیب 2/ 298}

ترجمہ: تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا جب سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ میں حسن و حسین کی محبت کے علاوہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں پائی۔ پس حضرت ابو ہریرہ سیدھے ہو کر بیٹھے گئے اور فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے۔ ہم راستہ طے کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے حسین رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ رو رہے ہیں۔ پس آپ ﷺ نے تیز چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ ایک پرانی مشک کی طرف متوجہ ہوئے اس میں سے پانی لینے کے لئے اور ان دنوں پانی کم تھا اور لوگ پانی کی تلاش میں تھے آپ ﷺ نے پکار کر کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے تو آپ کی بات سن کر ہر شخص نے اپنی مشک میں سے پانی تلاش کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کسی کو ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ رسول اللہ نے کہا فاطمہ ان میں سے ایک کو مجھے پکڑا تو اس نے پردہ کے نیچے سے ایک آپ کو پکڑا دیا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کلائیوں کی سفیدی دیکھی جب انہوں نے بچہ پکڑا یا تو آپ ﷺ نے اس بچے کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا اور وہ رو رہا تھا چپ نہیں کر رہا تھا آپ ﷺ نے اپنی زبان نکالی تو بچہ اس زبان کو چوسنے لگا اور اس طرح وہ بچہ چپ ہو گیا اور اس نے رونا بند کر دیا اور دوسرا اسی طرح رو رہا تھا چپ نہیں ہوتا تھا تو آپ نے کہا دوسرا بھی مجھے پکڑاؤ تو اس نے وہ دوسرا بچہ بھی آپ کو پکڑا یا تو آپ نے پہلے کی طرح کیا تو دونوں چپ ہو گئے میں نے پھر ان کی آواز نہیں سنی۔ پھر آپ نے فرمایا چلو تو پھر ہم سوار عورتوں کی وجہ سے دائیں بائیں ہو کر بکھر کر چلے یہاں تک کہ پھر راستہ میں آپ سے جا ملے (جب میں نے حضور کا یہ برتاؤ دیکھا ہے تو میں ان سے محبت کیسے نہ کروں)

فرطِ محبت و عقیدت کا اظہار:

جس طرح آپ نے مذکورہ حدیث میں پڑھا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی زبان کو شہزادوں کے منہ میں داخل کیا اور وہ اُس کو چوسنا شروع ہو گئے اسی طرح آپ ﷺ بسا اوقات فرطِ عقیدت و محبت میں ان پیاروں کی زبان کو بھی چوسا کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ

﴿رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُصُّ لِسَانَهُ اَوْ قَالَ شَفَّتَهُ يَعْنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاَنَّهُ لَنْ يَعْذِبَ لِسَانٌ اَوْ شَفَّتَانِ مَصَّهُمَا﴾

{مسند احمد 13/80 حدیث 16791 - مجمع الزوائد 9/180}

میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ حضرت حسن کی زبان یا ہونٹوں کو چوس رہے تھے اور اللہ ایسی زبان یا ہونٹ کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔

یقیناً حسین کریمین کے لیے یہ بہت بڑی شرف و عزت کی بات ہے کہ جن کے ہونٹوں اور زبان کو رسول اللہ ﷺ کے ہونٹ اور زبان چوستے رہے۔

جماعة الدعوة کے ممتاز عالم دین شیخ الحدیث حافظ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد مولانا تفضیل احمد آپ ﷺ کے اس بوسہ کی اہمیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اپنے نبی ﷺ کو حجرِ اسود کا بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی وہ حجرِ اسود کو بوسہ نہ دیتے، اس لیے کہ حج بھی اطاعتِ مصطفیٰ کا نام ہے، کیا ہمارے لیے یہی کافی نہیں کہ پیغمبر نے اپنے جن پیارے نواسوں کو بوسے دے کر ہمیں اُن سے محبت کی دعوت دی ہے، ہم اُس نبی کی خاطر اپنی تحقیق کے بکس بند کر کے اپنے دل میں حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو جگہ دیں اور نبی کی خاطر اس اختلاف کو ترک کر کے کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا؟ محبتِ اہل بیت کو اپنے دامن میں بھر لیں اور اُن کی مدح سرائی میں اپنی قلم کو جنبش دے کر رسول اللہ ﷺ کے شاء خوانوں میں اپنا نام لکھوا لیں، شاید یہی ہماری سابقہ زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ بن جائے۔ (ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کیوں؟ صفحہ 70)

حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیتے:

رسول اللہ ﷺ ہر طرح ان کی نگرانی کرتے، حقیقی بیٹوں سے کہیں زیادہ اُنس رکھتے جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو فوراً ان شہزادوں کی حالت ضرور دریافت کرتے، اس سب کچھ کے باوجود بھی ان موتیوں کو مندرجہ ذیل کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے۔ تاکہ وہ ہمیشہ کے لئے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔

سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے

﴿أُعِيدُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ

وَمِنْ كُلِّ عَمَلٍ لَّامَةٍ﴾ [صحیحہ بخاری، کتاب الادیبہ، حدیث 3371]

ترجمہ: میں تم دونوں کو ہر قسم کے شیطان، زہریلے جانور اور لگنے والی ہر آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ

اہل فکر! یقیناً میرے رب نے ان شہزادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا وہ پھول کہ جنہیں پیغمبر رحمت ﷺ یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیتے۔ ظاہری باطنی اور روحانی و جسمانی ہر لحاظ سے ان پر نظر کرم رکھتے تھے۔ آج ہمیں سنت رسول پر چلتے ہوئے ان پیاروں کا دفاع کرنا چاہیے اور جو ناپاک شخص ان کی ذات میں کیڑے نکالے اور ان کی عیب جوئی کرے یا اندازِ حقارت سے ان کا تذکرہ کرے۔ اس کا ہر طرح منہ بند کیا جائے اور اس کے قلم کو توڑا جائے جو عقیدت میں غلو سے کام لیں انہیں بھی بطریق احسن سمجھایا جائے تاکہ راہِ اعتماد یہ چل کر ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اور آج بھی ایسے خوبصورت بچے جنہیں نظر بد لگ جانے کا خدشہ ہو انہیں یہ دعاء مسنون پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اللہ ہر آفت سے محفوظ فرمائیں گے۔

حسین رضی اللہ عنہما اور اُن سے محبت رکھنے والے:

رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حسین کریمین

اور ان کے چاہنے والوں کی شان و شوکت اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سبھی قیامت کے روز بلند مقام پر فائز ہوں گے۔ اس حدیث کو حضرت علی المرتضیٰؑ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

﴿ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى الْمَنَاءِ، فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَائِقًا لَنَا بِكُنْيٍ، فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْهُ فَجَاءَ الْحَسَنُ فَتَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ابْنِي وَابْنِي وَهَذَا الرَّاقِدُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (مسند احمد، مسند علی جلد 2 صفحہ 792 اسناد صحیح)۔

ترجمہ: میں بستر پر سویا ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، حسن یا حسینؑ نے پانی مانگا پس رسول اللہ ﷺ ہماری کم دودھ دینے والی بکری کی طرف کھڑے ہوئے پس آپ ﷺ نے اس کا دودھ دھویا تو اس نے کافی دودھ دیا حسنؑ آیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو پرے ہٹا دیا۔ فاطمہؑ نے کہا گویا آپ کو دونوں میں سے یہ زیادہ محبوب ہے آپ ﷺ نے فرمایا ایسا نہیں لیکن پہلے پانی حسنؑ نے طلب کیا تھا؟ پھر اسی موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک میں اور تو بھی اور یہ دونوں اور یہ سونے والا قیامت کے روز ایک مقام پر ہوں گے۔

بلکہ دوسری روایت کے لفظ یوں ہیں کہ

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي

فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿(مسند احمد، مسند علیؑ 2/2 اسناد حسن)

رسول اللہ ﷺ نے حسن و حسینؑ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ پر ہوں گے۔

یاد رہے! محبت کا معیار شریعت ہے حسین کریمین سے محبت کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ ان کی محبت کی آڑ میں شریعت کی حدود کو پامال کیا جائے۔ بلکہ شریعت کے دائرہ میں رہ کر ہی ان شہزادوں سے محبت والفت رکھتی چاہیے۔ جس طرح تنقیص گمراہی ہے اسی طرح غلو بھی تباہی ہے۔

جنتی جوانوں کے سردار:

دنیا میں بے شمار صلحاء کو اعزازات سے نوازا گیا اور آخرت میں بھی نوازا جائے گا لیکن اس سے بڑھ کر اور بلند اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی خوش نصیب جنتی جوانوں کا سردار بن جائے۔

سید الرسل جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے دنیا کے ان پھولوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا اور سید اشباب المل الجنۃ کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ سیدنا حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ﴾

{مسند احمد (11537) مجمع الزوائد 186/9 مستدرک حاکم 3/166 و کتاب

الشریعة 2139/5 السلسلة الصحيحة 2/438 حدیث 797، حدیث متواتر ہے}

ترجمہ: حسینؑ و حسینؑ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

اور جامع ترمذی شریف میں سیدنا حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ

عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتَنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ؟ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ ﷺ

فَقُلْتُ: مَالِي بِهِ عَهْدٌ مُنذُ كَذَا وَكَذَاهُ فَنَالَتُ مِنِّي فَقُلْتُ لَهَا:
 دَعِينِي آتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَصَلِيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ
 يَسْتَغْفِرَ لِي وَلِكَ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ
 فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ:
 ”مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ“ قُلْتُ: نَعَمْ۔ قَالَ: ”مَا حَاجَتَكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ
 وَلَا مَلَكَ؟“ قَالَ: ”إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ اللَّيْلَةِ
 اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةٌ لِسَاءِ
 أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ“۔

{ سنن العرمذی 4 / 206 }

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ ﷺ سے کب کے ملے ہو میں نے کہا اتنی مدت ہو چکی ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا۔ وہ اس پر ناراض ہو گئیں، اور مجھے برا بھلا کہا۔

میں نے کہا مجھے اجازت دو میں حضرت نبی ﷺ کے پاس حاضر ہو کر آپ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور عرض کروں گا کہ آپ ﷺ میرے لئے اور آپ کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں، چنانچہ میں حضرت نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مغرب کی نماز آپ ﷺ کے ساتھ پڑھی۔ (پھر میں وہیں ٹھہرا رہا) حتیٰ کہ آپ ﷺ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی آپ ﷺ کے پیچھے چل پڑا، آپ ﷺ نے میری آواز سنی تو فرمایا:

”کون؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے“ میں نے عرض کیا ہاں، فرمایا کیا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیری والدہ کو معاف کرے اور فرمایا ”یہ فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھ پر سلام عرض کرے اور مجھے

بشارت دے کہ فاطمہؑ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسینؑ نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں۔

اور بعض روایات میں ہے حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ابْنَيْ
الْخَالَةِ عِمْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَىٰ بِنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ﴾

{مجمع الزوائد 9/185 و کتاب الشریعة 5/2144}

ترجمہ: حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے علاوہ باقی تمام جنت والوں کے جوانوں کے سردار ہیں۔

قارئین کرام! جنت میں جن شہزادوں کی سرداری میں ہم رہیں گے اور جو جوان ہمارے سردار ہوں گے ہمیں دنیا میں ان کا احترام اور عزت کرنی چاہیے۔ چند تاریخی غیر معتبر باتیں لے کر ان کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو کیونکہ ان کی شان، عظمت، جلالت اور رفعت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بلکہ ہمیں تو ان کا دفاع کرتے ہوئے ان سے دلی محبت رکھنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اہل بیت سے محبت، اور حسین کریمین سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بوڑھوں کے سردار شیخین کریمینؑ:

جس طرح زبان رسالت سے حسین کریمین کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملی ہے اسی زبان سے یہ بھی ارشاد پاک ہے کہ:

﴿سَيِّدًا كَهُوَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْأَوَّلِينَ

وَالْآخِرِينَ﴾ {السلسلة الصحيحة 2/487 حدیث 824}

جنت میں دنیا کے اول آخر تمام بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔

میں اب خوش ہوا ہوں:

میرے پیغمبر ﷺ کی رحلت کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساداتا حضرات حسینؑ سے حد درجہ محبت کرتے۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد ان شہزادوں، شاہینوں، شہبازوں اور جنت کے سرداروں کی قدر کا حق ادا کر دیا۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر فاروقؓ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے پہنائے تو ان میں سے کوئی ایسا کپڑا نہ تھا جو ساداتا حسینؑ کریمین کے شایان شان ہو۔

﴿فَبَعَثَ إِلَى الْيَمَنِ عَفَاتِي بِكِسْوَةٍ لَّهُمَا فَقَالَ الْآنَ طَابَتْ

نَفْسِي﴾ (سہرا اعلام النبلاء 3/285 ترجمۃ حسین الشہید)

آپ ﷺ نے (قاصد کو) یمن بھیجا وہاں سے ان کے لئے (عمدہ و نفیس) کپڑے لے کر آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں:

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُكْرِهُمَا وَيُعْطِيهِمَا

كَمَا يُعْطِي أَبَاهُمَا (البدایة والنہایة: 226/8)

اور یہ بات صحیح ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ونوں شہزادوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اور ان دونوں کے والد کی طرح ان کو عطیات دیتے تھے۔

اہل نظر اب اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کا خیال نہ رکھتے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ اور نا انصافی ہے۔ خلفاء راشدین سمیت تمام صحابہ کرام حد درجہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور آپ کے گھرانے کا دل و جان سے احترام کرتے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ان کا ادب کرنے کی۔

حضرت علیؑ کی حسنینؑ کریمین رضی اللہ عنہم کو وصیت:

نسخ البلاغہ صفحہ 642 کے مطابق حضرت علی المرتضیٰؑ نے آخر وقت اپنے دونوں شہزادوں کو پاس بلایا اور قیمتی وصیتیں فرمائیں۔ آپؑ نے فرمایا:

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَنْ لَا تَبْغِيَا الدُّنْيَا..... الخ

”میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہشمند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لئے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لئے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔

میں تم کو اپنی تمام اولاد کو اپنے کنبہ کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے۔ (دیکھو) یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لئے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، اپنے ہمسائیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر ﷺ نے برابر ہدایت کی ہے اور آپ ﷺ اس حد تک ان کے لئے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اُسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا، تو پھر (عذاب سے) مہلت نہ پاؤ گے۔ جان مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا اور تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا

حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے ہاتھ نہ اٹھانا اور نہ بد کردار تم پر مسلط آجائیں گے، پھر دعا مانگو تو قبول نہ ہوگی۔“

بلاشبہ حضرت علی المرتضیٰؑ کی وصیتوں کا ایک ایک حرف موتیوں سے زیادہ روشن اور قیمتی ہے اور یقیناً پیارے شہزادوں نے بھی ان موتیوں کو اپنے گلے کی مالا بنایا تھا اور ہر آن ہر گھڑی تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہی بسر کی تھی، مگر آج افسوس یہ ہے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ اور حسین کریمین سے محبت کے بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں مگر ہمارا کردار ان کی سیرت، صورت اور مشن کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ جبکہ عمل و قول کا اس قدر تضاد تباہی کا موجب ہے، آئیے صرف زبان ہی سے نہیں عمل سے اور اچھے کردار سے اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیں اور رضائے الہی کے لئے ہر قربانی پیش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔

بابائے حسینؑ کی حکمت بھری باتیں:

شیعہ حضرات کے ہاں نوح البلاغہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ اسے حضرت علیؑ کے خطبات تصور کرتے ہیں۔ ہم اسی کتاب سے چند نصیحت آموز باتیں تحریر کرتے ہوئے اپنی کتاب کا اختتام کرتے ہیں تاکہ عقیدہ کی اصلاح اور اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہو سکے۔

(1) سیدنا علیؑ نے فرمایا:

يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ مُحِبُّ مَفْرُطٌ وَبَاهِتٌ مُفْتِرٌ قَالَ الرَّضِيُّ
وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - هَلَكَ فِي رَجُلَانِ مُحِبُّ غَالٍ
وَمُبْغِضٌ قَالَ - (نوح البلاغہ، صفحہ 823)

میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ و افتراء باندھنے والا۔ سید رضی کہتے ہیں حضرت علیؑ کا یہ ارشاد اس کے مانند ہے کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے ایک محبت

میں غلو کرنے والا اور دوسرا دشمنی و عناد رکھنے والا۔

فائدہ: حضرت علیؑ کے اس فرمان کی روشنی میں ہم اہل حدیث بڑی خوشی سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہلاکت سے محفوظ ہیں، آپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو خدا، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں اور نہ ہی آپ کی تنقیص کرتے ہوئے آپ کی شان اور خلافت کے منکر ہیں۔ بلکہ آپ ہمارے ہاں شجاع، متقی، جبل علم و عمل، دامادِ مصطفیٰ اور چوتھے برحق خلیفہ ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار حسین کریمینؑ کے والدِ گرامی قدر ہیں۔

(2) آپؑ نے فرمایا:

ضَعُ فُخْرَكَ وَأَحْطُطْ كِبْرَكَ وَأَذْكُرْ قَبْرَكَ۔ (صفحہ 806)

فخر و سر بلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔

فائدہ: آپؑ کی اس نصیحت پر عمل کرنے سے تمام مذہبی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور امن و سکون کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ فخر و غرور اور انجام کی بے خبری ہی بد عقیدہ، بد عمل اور بد کردار بناتی ہے۔

(3) آپؑ نے فرمایا:

لَا تَلْظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سَوْءٌ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي

النَّهْرِ مُحْتَمَلًا۔ (صفحہ 796)

کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگرچہ اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے

بارے میں بدگمانی نہ کرو۔

فائدہ: آج تو اچھے بھلے مفہوم کو بگاڑ کر دوسرے پر مسلط کرنا علمی و تحقیقی میدان کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ بے بنیاد، سنی سنائی اور موضوع و مردود باتوں کو لے کر بڑی جرأت و دلیری سے کفر و شرک کے فتوے صادر کئے جاتے ہیں۔ آپ کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنے اس جاہلانہ رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔

(4) آپؑ نے فرمایا:

اللَّجَاجَةُ تَسَلُّ الرَّأْيَا

ضد اور ہٹ دھرمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے۔

فائدہ: اور آج بھی حق ماننے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں مگر اکثر مولوی حضرات اپنی جھوٹی چودھراہٹ کے لئے ہٹ دھرمی اور ضد کو ختم نہیں کرتے اور ساری زندگی اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اور اپنی عاقبت کھوٹی کرتے ہیں۔

(5) آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعْ الْمَرْأَةَ

جسے اپنی عزت و آبرو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔

فائدہ: مگر افسوس آج لڑائی جھگڑا ہی عزت و آبرو کا معیار بن چکا ہے۔ مذہبی لڑائی جھگڑے اپنی فتح کے نشان سمجھے جاتے ہیں، زیادہ گالیاں دینے والا، زیادہ نقصان کرنے والا اور زیادہ قتل و غارت کرنے والا گروہ اپنے آپ کو باعزت اور کامیاب سمجھتا ہے۔ جبکہ ایسے گروہ کی عزت و عظمت اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کے ہاں اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاں ذرہ برابر نہیں رہتی۔

یہ عظیم نصیحتیں کہ جن سے کتب کے اوراق روشن ہیں، اللہ ان کے ذریعے ہمارے سینے بھی روشن فرمادے اور بغض و حسد اور جہالت و نفاق اور ہٹ دھرمی و غلو سے محفوظ فرما کر ایک نیک سیرت سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر سی کاوش کو میرے لئے میرے جدین، والدین، اساتذہ اور مخلص ساتھیوں کے لئے صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا اور قیمتی تجاویز اور آراء سے نوازا اور ہر معاملہ میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔

آمین ثم آمین تمت بالخیر

محبت اہل بیت و صحابہ

عبد المنان راسخ

غفر الله له ولوالديه ولاساتذته

خادم السنة النبوية الشريفة

قارئین و واعظین کی خدمت میں

احادیث صحیحہ اور چند آثارِ مستندہ کی روشنی میں آپ سیدنا حضرت حسنؑ اور سیدنا حضرت حسینؑ کی عظمت، شان، منزلت و علوم مرتبت، رفعت، جلالت اور بلند مقام کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔

الحمد للہ اب ہمیں ان شہزادوں کی شان کے لئے، ضعیف، متروک اور موضوع روایات و واقعات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض احباب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کی عظمت میں موضوع احادیث یا من گھڑت واقعات نہ سنائے جائیں تو ان کی شان بیان نہیں ہوتی اور مجمع نہیں تڑپتا۔ یہ محض ان کی خام خیالی ہے اور قرآن و حدیث سے تجاوز ہے جو کہ باعثِ ہلاکت ہے۔

جب صحیح ذخیرہ حدیث سے اس قدر بلند شان واضح ہے تو پھر غیر ثابت احادیث و قصص بیان کرنا یقیناً غلو اور ناانصافی ہے ویسے بھی کوئی ایسی بات کہنا جو آپ رسول اللہ ﷺ سے صحیح ثابت نہ ہو تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ لیکن صد افسوس کہ اس موضوع پر تحریر یا تقریر کرتے وقت صحت قصہ یا حدیث کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غلو سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

○ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ممتاز، باعمل علمائے کرام کی قیادت نصیب فرمائے، جو نیر و محراب اور سٹیج کی زینت بنتے ہوئے صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کریں۔ افسوس اس وقت اسٹیج پر جہلاء خطباء و واعظین کا غلبہ ہے، جو بے راہ روی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ علم کی حقیقت سے نا آشنا ہیں اور امت کو جہالت و گمراہی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔

اللھم انا نسنلک الخیر ونعوذک من الشر

دوران تحریر سنت مطالعہ بننے والی کتب

((القرآن الکریم)) کلام رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی رسولہ
النبی الکریم

((ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل)) تالیف الامام
شیخ الاسلام محمد ناصر الدین الالبانی المتوفی ۱۴۲۰ھ الطبعة الاولى
۱۹۷۹م المكتب الإسلامی بیروت،

((الاستیعاب فی معرفة الاصحاب)) ابن عبد البر، دائرة المعارف،
جنوبی الهند، مدینة الحیدر آباد

((اسد الغابة فی معرفة الصحابة)) للإمام ابن اثیر، المكتبة
الاسلامیة، بظهران

((الاصابة فی تمييز الصحابة)) لابن حجر المطبعة الشرفیة 1907
((بحر الانوار، الجامعة لدرر اخبار الأنمة الأطهار)) محمد باقر،
دار الاحیاء التراث العربی

((تاج العروس)) للإمام اللغوی السید محمد مرتضی الزییدی طبعة دار
لسیال نشر والتوزیع بنغازی۔

((تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام)) للإمام محمد بن
عثمان الذہبی، دارالکتاب العربی بیروت لبنان

((تاریخ اسلام)) اکبر شاه خان نجیب آبادی، نفیس اکیڈمی لاہور طبع
ہفتہ ۱۹۷۰م

((تاریخ بغداد لومدینة السلام)) للحافظ ابی بکر احمد بن علی
الخطیب البغدادی المتوفی ۴۶۳ھ الناشر دارالکتاب العربی بیروت

((تحفة الأحوذی)) للإمام عبدالرحمن المبار کفوری دارالکتاب العربی،
بیروت، لبنان

- ((تفسیر القرآن العظیم)) للحافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر
المتوفی ۷۷۴ مکتبه طیبه للنشر والتوزیع بیروت
- ((تقریب التہذیب)) ابن حجر الطبع القديم من الکنوہ
- ((تہذیب التہذیب)) للإمام ابی الفضل احمد بن علی بن حجر المتوفی
۸۵۲ ھ الطبعة الأولى مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فی الهند
- ((تیسیر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری)) از علامہ وحید
الزمان نعمانی کتب خانہ و تاج کمپنی لاہور
- ((خیر الاقوال والافعال فی زمن الاحوال)) محمد فاتح المعجمی
طبعة کویٹ
- ((رحمة للعالمین)) از قاضی محمد سلیمان سلمان منصورپوری رحمۃ اللہ علیہ
ناشرین شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلیشرز، چوک انار کلی، لاہور
- ((سلسلة الاحادیث الصحیحة و شئی من فقہا و فوائدها)) للإمام
العلامة المحدث ناصر الدین الالبانی، مکتبه المعارف للنشر والتوزیع الرياض
- ((سنن ابن ماجه)) للإمام ابن ماجه القزوينی بترقیم محمد فواد
عبدالباقی
- ((سنن ابی داؤد مع العون)) دار الكتاب العربی بیروت
- ((السنن الکبری)) للإمام المحدث احمد بن الحسین البیهقی المتوفی
۴۵۸ ھ نشر السنة ملتان، اسلامی جمہوریہ پاکستان
- ((سنن النسائی)) للإمام احمد بن شعيب النسائی المتوفی ۳۰۳ ھ
المکتبه السلفية بلاهور پاکستان
- ((سیر اعلام النبلاء)) للإمام شمس الدین محمد بن احمد الذهبی
المتوفی ۱۳۷۴ م مؤسسة الرسالة بیروت
- ((سیرت النبی)) از علامہ شبلی نعمانی و علامہ سید سلیمان
ندوی، اعلیٰ ایڈیشن، ادارہ اسلامیات، پبلشرز، بک سٹیرز، لاہور
- ((صحیح بخاری مترجم)) ترجمہ و تشریح محمد داؤد رازؒ طبعہ

الاولى ٢٠٠١ء مكتبه قدوسيه لاهور

((**صحيح تاريخ طبرى**)) محقق و مخرج دار ابن كثير، دمشق بيروت

((**صحيح سنن الترمذى مترجم**)) للإمام المحدث الالبانى و

ترجمه گوندلوى الطبعة الاولى ١٤٢١هـ جامعة تعليم القرآن سيالكوت

((**صحيح المسلم**)) ناشر نور محمد اصح المطابع كراچى

((**صحيح موارد الظلمن الى زوائد ابن حبان**)) للإمام الكبير

ناصر الدين البانى طبعة دارالصمعي للنشر والتوزيع رياض

((**عون المعبود شرح سنن ابى داؤد**)) للشيوخ المحدث شمش

الحق ذيانوى، دارالكتاب العربى بيروت لبنان

((**غصن الرسول**)) تقديم الدكتور محمد بن فتح الله بلران بقلم فواد

على رضا مؤسسة المعارف بيروت لبنان طبعة ١٩٩٨ء

((**كتاب الشريعة**)) للإمام المحدث محمد بن الحسين الآجرى المتوفى

٣٦٠ دارالوطن الرياض المملكة العربية السعودية

((**كتاب فضائل الصحابة**)) للإمام احمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ

دارابن الحوزى الرياض المملكة العربية السعودية

((**فتاوى ابن قيميّة**)) طبعة المملكة العربية السعودية على نفقة

اصحاب الخير

((**فتح البارى بشرح البخارى**)) تاليف الحافظ شهاب الدين أبى

الفضل العسقلانى المعروف بابن حجر طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

البابى الحلبي بمصر ١٩٥٩م

((**الفتح الربانى لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل**

الشيبانى)) تاليف احمد عبدالرحمن البناء الشهير بالساعاتى دارالحديث

القاهرة

((**لسان العرب**)) لابن منظور محمد بن مكرم الانصارى المتوفى

٧١١هـ طبعة الدار المصرية للتاليف

((اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

إماما المحدثين)) تاليف محمد فواد عبدالباقى الطبعة الاولى ١٩٩٤م

جمعية إحياء التراث الإسلامى

((مجمع الزوائد و منبع الفوائد)) للحافظ نورالدين على بن ابى

بكر الهيثمى المتوفى ٨٠٧هـ طبعة ١٩٨٦م من منشورات مؤسسة المعارف

بيروت

((المستدرک على الصحيحين)) لابى عبدالله الحاكم النيسا

بورى مكتب المطبوعات الاسلامية حلب

((مسند ابى يعلى الموصلى)) للإمام أحمد بن على بن المشنى

التميمى بتحقيق حسين سليم دار الماعون للتراث/ وبتحقيق الشيخ الأثرى

دار القبلة للثقافة الاسلامية جده

((مسند احمد)) للإمام الشهير احمد بن حنبل^٢/ بتحقيق احمد محمد

شاكر دارالمعارف للطباعة والنشر بمصر

((مصنف ابن ابى شيبه)) للإمام عبدالله الكوفى المتوفى ٢٣٥هـ الدار

السلفية الهند

((المعجم الكبير)) للحافظ ابى القاسم سليمان بن احمد الطبرانى

المتوفى ٣٦٠هـ مطبعة الوطن العربى

((معجم ما يخص آل البيت النبوى)) تاليف الدكتور عبدالكريم بن

إبراهيم بن محمد آل غضية المتوفى ١٤٢٠هـ بالمدينة المنوره دارابن

الجوزى السعوديه

((المعجم الوسيط)) للأساتذه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات

وحامد عبدالقادر ومحمد على النجار المكتبة العلمية طهران

((منتقى حياة الصحابه)) محمد يوسف الكاندهلوى، دار الفيحاء،

بيروت

((المنجد جديد عربى اردو)) ناشر دارالاشاعت كراچى طبعة

١٩٧٥ء

((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) تاليف ابي عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي تحقيق على محمد البجاوي دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان

((النهاية في غريب الحديث والآثر)) للإمام مجد الدين مبارك الجزري ٥٦٠٦ هـ دار الفكر بيروت لبنان

((نوع البلاغه)) ترجمه و حواشي مفتي جعفر حسين، معراج كمپني لاهور

((مامش المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية)) للإمام المحدث الماهر بعلم الرجال ابن حجر العسقلاني الطبعة للدار العاصمة ٢٠٠٠م

((هداية الرواة الى تخريج احاديث المصابيح والمشكاة)) لابن حجر، دار ابن قيم، دار ابن عфан، طبع مصر

تعارف

راسخ اکیڈمی

والد گرامی حضرت مولانا حکیم عبدالرحمن راسخ رحمہ اللہ تعالیٰ بہترین مبلغ، موثر خطیب، وین حق کے بے لوث داعی، مہمان نواز، ملنسار، خوش گفتار اور بااخلاق اور باعمل عالم دین تھے۔ آپ حکمت و خطابت کے ساتھ ساتھ شوقِ تصنیف و تالیف سے بھی سرشار تھے۔ آپ نے علمی موضوعات و مقالات کی اشاعت کے لیے راسخ اکیڈمی قائم کی اور اس کے تحت مولانا صدیق رحمہ اللہ کے علمی مقالات اور شاعر اسلام سعید الفت کے شعری کلام کو شائع کیا۔ مستقبل میں آپ کئی علمی و تحقیقی اور تربیتی و اصلاحی کتب کو شائع کرنے کا پروگرام رکھتے تھے کہ اللہ کا پیغام آ گیا اور آپ دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ اللھم اغفرلہ

الحمد للہ میں نے والد گرامی کے اس نیک مشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے راسخ اکیڈمی کی نشاۃ ثانیہ کی ہے، وقتاً فوقتاً راسخ اکیڈمی کے تحت علمی و تحقیقی کتب آپ کے پیش خدمت ہوں گی اور ولید گرامی کے خطبات و مقالات کو عنقریب شائع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ولید گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

عبدالمعنان راسخ

ڈائریکٹر راسخ اکیڈمی، فیصل آباد

0300-6686931

مؤلف کے قلم سے علم و تحقیق کے جواہر

عام قیمت: 40 روپے	(1) گلستان رسالت ﷺ کے دو پھول
عام قیمت: 36 روپے	2 انسانیت کا زیور زمی
عام قیمت: 50 روپے	(3) لعنتی کون
عام قیمت: 14 روپے	(4) مسنون رکعات تراویح
عام قیمت: 25 روپے	(5) تاریخ و اصطلاحات حدیث
قیمت: 60 روپے	(6) معجم اصطلاحات اصول الفقہ
قیمت: 70 روپے	(7) معجم اصطلاحات الاحادیث النبویہ
عام قیمت: 40 روپے	(3) گالی حرام ہے۔
قیمت: 40 روپے	(9) فلیس منا
قیمت: 80 روپے	(10) آپ پر سلامتی ہو!
قیمت: 60 روپے	(11) گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟
=====	(12) ترجمہ و فوائد سلسلہ احادیث صحیحہ

یاد رہے! مصنف کی تمام کتب صحیح احادیث اور مستند واقعات پر مشتمل ہوتی ہیں

محمد شین کرام اور جمہور اہل علم کی آراء کا کھل لجاظ اور احترام کیا جاتا ہے۔

نوٹ: مؤلف کی رہنمائی کیلئے 0300-6686931

برائے مراسلات: 479، C بلاک، علامہ اقبال کالونی، فیصل آباد

شانِ حسن و حسین

مترجم: پروفیسر حافظ عبدالستار حامد مصنف: سید کبیر

فاضل مصنف علمی و تحقیقی ذوق کے مالک ہیں۔ منفرد و مختصر، مستند اور جامع مواد زینت کتاب بنانا ان کی امتیازی خوبی ہے اور بلا شان ان کی یہ کتاب بھی اپنے موضوع اور مواد کے لحاظ سے بے مثال ہے۔

پروفیسر چوہدری **السین ظفر** جامعہ حنفیہ فیصل آباد

مولانا ابوالحسن عبداللہ اللہ علیہ السلام کی سیدنا حسین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، انہوں نے افراط و تفریط سے ہٹ کر نہایت معتدل رستہ اختیار کیا ہے اور حقائق کو واضح کیا ہے۔ اہل سنت کے موقف کی ترجمانی کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اہل بیت اور حسین کریمین کے حقیقی وارث اہل سنت ہی ہیں۔

علامہ سید **ضیاء اللہ شاہ بخاری** پرنسپل الہدیر یونیورسٹی ساہیوال

نوجوان عالم دین مولانا ابوالحسن عبداللہ اللہ علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب سے متعلقہ احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ اصول حدیث کو ملحوظ رکھا۔ روایات کی صحت کا اہتمام کیا اور نہایت دلآویز عنوانات ترتیب دیئے۔ احادیث شریفہ کا اردو ترجمہ نہایت سلیس اور عمدہ اسلوب میں کیا اور تشریحی نکات اس انداز میں مرتب کیے ہیں کہ جن کے مطالعہ کے بعد ایک صاحب ذوق یقیناً جہاں ایمان کی چاشنی محسوس کرے گا وہاں اس کے سامنے ”خارجی ذہنیت“ کے پھیلائے ہوئے متعدد شکوک و شبہات کا پردہ بھی چاک ہوگا۔

راسخ اکبری بانی **المجلد الثانی** دار الفکر بیروت